

شیعہ جواب دیتے ہیں



آیة اللہ سید رضا حسینی تاسب
مترجم : عمران مہدی

فہرست مطالب

حرف اول..... ۱۱

بیش گفتار..... ۱۵

پہلا سوال: "و عزرتی اہل بیٹی" صحیح ہے یا "وسنتی"؟..... ۱۹

دوسرا سوال: شیعہ سے کیا مراد ہے؟..... ۳۵

تیسرا سوال: کیوں حضرت علی بی بیغمیٹ کے وصی اور جانشین ہیں؟..... ۳۹

چوتھا سوال: "ائمہ" کون ہیں؟..... ۴۵

پانچواں سوال: حضرت محمدؐ صلوٰت پڑھتے وقت آل کا اضافہ کیوں کرتے ہیں اور اللہم صل علی محمد و آل محمد کہتے ہیں..... ۴۹

چھٹا سوال: اپنے اماموں کو معصوم کیوں کہتے ہیں؟..... ۵۱

ساتواں سوال: اذان میں اشہد ان علیاً ولی اللہ کیوں کہتے ہیں اور حضرت علی - کی ولایت کی شہادت کیوں دیتے ہیں؟..... ۵۵

آٹھواں سوال: مہدی آل محمد کون ہیں اور ان کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟..... ۵۹

نواں سوال: اگر شیعہ حق پر ہیں تو وہ اقلیت میں کیوں ہیں اور دنیا کے اکثر مسلمانوں نے انہیں کیوں نہیں مانا؟..... ۶۳

دسواں سوال: رجعت کیا ہے اور آپ اس پر کیوں عقیدہ رکھتے ہیں؟..... ۶۷

گیارہواں سوال: جس شفاعت کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟..... ۷۵

بارہواں سوال: کیا حقیقی شفاعت کرنیوالوں سے بھی شفاعت کی درخواست کرنا شرک ہے؟..... ۸۱

تیرہواں سوال: کیا غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے؟..... ۸۷

چودھواں سوال: کیا دوسروں کو پکارنا ان کی عبادت ہے؟..... ۹۱

پندرہواں سوال: "بداء" کیا ہے اور آپ اس کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟..... ۹۹

سولہواں سوال: کیا شیعہ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں؟..... ۱۰۵

سترہواں سوال: صحابہ کرام کے بارے میں شیعوں کا کیا نظریہ ہے؟..... ۱۱۹

اٹھارہواں سوال: متعہ کیا ہے اور شیعہ اسے کیوں حلال سمجھتے ہیں؟..... ۱۳۱

انیسواں سوال: شیعہ مٹی پر کیوں سجدہ کرتے ہیں؟..... ۱۴۳

بیسواں سوال: شیعہ زیارت کرتے وقت حرم کے دروازوں اور دیواروں کو کیوں چومتے ہیں اور انہیں باعث برکت کیوں سمجھتے ہیں؟..... ۱۵۰

اکیسواں سوال: کیا اسلام کی نگاہ میں دین سیاست سے جدا نہیں ہے؟..... ۱۶۱

بائیسواں سوال: شیعہ، حضرت علی ابن ابی طالب کے بیٹوں (امام حسن اور امام حسین) کو رسول خداؐ کے بیٹے کیوں کہتے ہیں؟..... ۱۷۱

تینیسواں سوال: شیعوں کے نزدیک یہ کیوں ضروری ہے کہ خلیفہ کو خدا اور رسولؐ ہی معین فرمائیں؟..... ۱۷۹

چوبیسواں سوال: کیا غیر خدا کی قسم کھانا شرک ہے؟..... ۱۸۵

پچیسواں سوال: کیا اولیائے خدا سے توسل کرنا شرک اور بدعت ہے؟..... ۱۹۳

چھیسواں سوال: کیا اولیاء خدا کی ولادت کے موقع پر جشن منانا بدعت یا شرک ہے؟..... ۲۰۱

ستائیسواں سوال: شیعہ پانچ نمازوں کو تین اوقات میں کیوں پڑھتے ہیں؟..... ۲۰۷

اٹھائیسواں سوال: شیعوں کی فقہ کے ماخذ کون سے ہیں؟..... ۲۲۹

انٹیسواں سوال: کیا ابوطالب ایمان کیساتھ دنیا سے گئے ہیں کہ آپ انکی زیارت کیلئے جاتے ہیں؟..... ۲۴۵

تیسواں سوال: کیا شیعوں کی نظر میں جبرئیل نے منصب رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے اور کیا یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت علی - کے بجائے قرآن مجید کو رسول اکرمؐ پر نازل کر دیا ہے؟..... ۲۷۳

اکتیسواں سوال: تقیہ کا معیار کیا ہے؟..... ۲۷۹

بتیسواں سوال: ایران کے بنیادی قانون میں کیوں مذہب جعفری (اثنا عشری) کو حکومت کا مذہب قرار دیا گیا ہے؟..... ۲۸۵

تینتیسواں سوال: کیا شیعہ نماز وتر کو واجب سمجھتے ہیں؟..... ۲۸۹

چونتیسواں سوال: کیا اولیائے خدا کی غیبی طاقت پر عقیدہ رکھنا شرک ہے؟..... ۲۹۱

پینتیسواں سوال: کیوں منصب امامت، منصب نبوت سے افضل ہے؟..... ۲۹۷

چھتیسواں سوال: توحید اور شرک کی شناخت کا معیار کیا ہے؟..... ۳۰۹

۵. اطاعت میں توحید.....

شیعہ جواب دیتے ہیں
سید رضا حسینی نسب
مترجم: عمران مہدی
مجمع جهانی اہل بیت (ع)

قال رسول اللہ ﷺ: "ان تارك فيكم الثقلين، كتاب الله، و عترت اهل بيت ما ان تمسكنم بهما لن تضلوا أبداً و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض".

حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: "میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں: (ایک) کتاب خدا اور (دوسری) میری عترت اہل بیت (علیہم السلام)، اگر تم انہیں اختیار کئے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو گے، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔"

(صحیح مسلم: ۱۲۲۷، سنن دارمی: ۴۳۲۲، مسند احمد: ج ۳، ۱۴، ۱۷، ۲۶، ۵۹، ۳۶۶۴ و ۳۷۱، ۱۸۲۵، اور ۱۸۹، مستدرک حاکم: ۱۰۹۳، ۱۴۸، ۵۳۳ و غیرہ۔)

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچے و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہوجاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی سے رو برو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلام ﷺ کی یہ گرانبہا میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی ہے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دئی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین وبے تاب ہیں، یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی

تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچانے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہوسکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوتؑ رسالت کی جاودا میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علامہ آقای سیدرضا حسینی نسب کی گرانقدر کتاب (شیعہ پاسخ می دہد) کو مولانا عمران مہدی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام

مدیر امور ثقافت،

مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام

پیش گفتار

عالم اسلام کے موجودہ حالات سے باخبر حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج امت اسلامیہ کئی "امتوں" میں بٹی ہوئی ہے۔ اور ہر امت خاص نظریات اور رسومات کی پابند ہے جس کے نتیجہ میں ان کی زندگی کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے کہ جن کی بقا کا راز ہی مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے میں ہے اور وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے مختلف طریقوں سے سرمایہ گزاری کرتے ہیں اور اس کیلئے ہر ممکن وسیلے کو بروئے کار لاتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی فرقوں کے درمیان چند اختلافی مسائل ضرور پائے جاتے ہیں اگرچہ ان اختلافی مسائل کا تعلق علم کلام کے ایسے مسائل سے ہے جن کے موجد خود اسلامی متکلمین ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت ان سے آگاہ تک نہیں ہے۔ اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ان اختلافی مسائل سے کہیں زیادہ اہم، مشترک نکات بھی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے لیکن اختلاف ڈالنے والے افراد، اصول اور فروع میں موجود ان مشترک نکات کو چھوڑ کر صرف اختلافی مسائل کو ہی بیان کرتے ہیں۔ "اتحاد بین المسلمین" کی ایک کانفرنس میں انفرادی مسائل (جیسے نکاح، طلاق اور میراث وغیرہ ہیں) سے متعلق اسلامی مذاہب کے فقہی نظریات کا بیان میرے سپرد کیا گیا تھا چنانچہ میں نے اس کانفرنس میں ان موضوعات کے متعلق ایک تحقیقی رسالہ پیش کیا کہ جس نے تمام شرکاء کو تعجب میں ڈال دیا اس رسالہ کے مطالعہ سے پہلے کسی کے لئے ہر گز یہ بات قابل قبول نہ تھی کہ فقہ شیعہ ان تینوں موضوعات کے اکثر مسائل میں اہل سنت کے موجودہ چاروں مذاہب سے موافقت رکھتی ہے۔

یہ اختلاف ڈالنے والے افراد، شیعوں کو دوسرے اسلامی فرقوں سے جدا سمجھتے ہیں اور شب و روز اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعہ اس مظلوم فرقے کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ یہ لوگ اپنے ان کاموں کے ذریعہ اپنے مشترک دشمن کی خدمت کر رہے ہیں ان ناآگاہ افراد کو میری یہ نصیحت ہے کہ وہ شیعوں سے بھائی چارے، اور ان کے علماء اور دانشوروں سے رابطے کے ذریعہ اپنی آنکھوں سے ناآگاہی کے پردے ہٹا دیں اور شیعوں کو اپنا دینی بھائی سمجھیں

اور اس طرح وہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت کے مصداق قرار پائیں:
 (إِنَّ بِذِهِ مَثَكُم مَّهًّ وَاجِدَةً وَنَا رُبُّكُمْ فَاَعْبُدُون)

استعمار کے پرانے حربوں میں سے ایک حربہ مسلمانوں کے درمیان طرح طرح کے شبہات اور اعتراضات پیدا کرنا رہا ہے تاکہ وہ اس طرح ایران کے اسلامی انقلاب کو نقصان پہنچا سکیں اور یہ وہ پرانا حربہ ہے جو آخری چند صدیوں میں مشرق وسطیٰ اور دوسرے علاقوں میں مختلف صورتوں میں رائج رہا ہے حج کے موقع پر بہت سے حجاج کرام اسلامی انقلاب سے آشنائی حاصل کرتے ہیں مگر دوسری طرف سے دشمنوں کی غلط تبلیغات ان کے اذہان کو تشویش میں مبتلا کر دیتی ہیں اور وہ حجاج جب ایرانی حجاج سے ملتے ہیں تو ان سے ان سوالات کے جوابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں موجود یہ کتاب دینی اور ثقافتی مسائل سے متعلق انہی سوالوں کا جواب دینے کی خاطر تحریر کی گئی ہے۔ اس کتاب کو میری نگرانی میں محترم جناب سید رضا حسینی نسب نے ان سوالوں کا جواب دینے کے لئے منظم انداز سے تحریر کیا ہے۔ البتہ اختصار کی خاطر ضرورت کے مطابق مختصر جوابات ہی پیش کئے گئے ہیں مزید تفصیلات کسی اور مقام پر پیش کی جائیں گی۔ امید ہے کہ یہ ناچیز خدمت امام زمانہ (ارواحناہ الفدائی) کی بارگاہ میں مورد قبول قرار پائے گی۔

جعفر سبحانی

حوزئہ علمیہ قم

۲۲ نومبر ۱۹۹۴ء

شیعہ جواب دیتے ہیں

پہلا سوال

"وعترتی اہل بیٹی " صحیح ہے یا "وسنتی"؟

حدیث ثقلین ایک ہے حد مشہور حدیث ہے جسے محدثین نے اپنی کتابوں میں دو طریقوں سے نقل کیا ہے :

الف: "کتاب اللہ و عترت اہل بیت"

ب: "کتاب اللہ وسنت"

اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو میں سے کونسی حدیث صحیح ہے ؟

جواب: پیغمبر اسلام ﷺ سے جو حدیث صحیح اور معتبر طریقے سے نقل ہوئی ہے اس میں لفظ "اہل بیٹی" آیا ہے . اور وہ روایت جس میں "اہل بیٹی" کی جگہ "سنتی" آیا ہے وہ سند کے اعتبار سے باطل اور ناقابل قبول ہے ہاں جس حدیث میں "واہل بیٹی" ہے اس کی سند مکمل طور پر صحیح ہے .

حدیث "واہل بیٹی" کی سند

اس مضمون کی حدیث کو دو بزرگ محدثوں نے نقل کیا ہے :

۱۔ مسلم ، اپنی صحیح میں زید بن ارقم سے نقل کرتے ہیں: ایک دن پیغمبر اکرم ﷺ نے ایک ایسے تالاب کے کنارے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا نام "خم" تھا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھا اس خطبے میں آپ ﷺ نے خداوند کریم کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو نصیحت فرمائی اور یوں فرمایا:

"أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُّوشِكُ أَنْ يَأْتِ رَسُولُ رَبِّ فَاجِيبْ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ . أُولَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا

کتاب اللہ واستمسکوا بہ ، فحث علی کتاب اللہ و رغب فیہ ثم قال: وأهل بیت أذکرکم اللہ ف أهل بیت . أذکرکم اللہ ف أهل بیت .
أذکرکم اللہ ف أهل بیت . (۱)

اے لوگو! بے شک میں ایک بشر ہوں اور فریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا نمائندہ اُنے اور میں اس کی دعوت قبول کروں میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا ہے جس میں ہدایت اور نور ہے کتاب خدا کو لے لو اور اسے تھامے رکھو اور پھر پیغمبر اسلامؐ نے کتاب خدا پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی اور اس کی جانب رغبت دلائی اس کے بعد یوں

.....

(۱) صحیح مسلم جلد ۴ ص ۱۸۰۳ حدیث نمبر ۴۰۸ طبع عبدالباقی

فرمایا اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں . اپنے اہل بیت کے سلسلے میں، مینتمہنخدا کی یاد دلاتا ہوں اور اس جملے کی تین مرتبہ تکرار فرمائی.

اس حدیث کے متن کو دارمی نے بھی اپنی کتاب سنن (۱) میں نقل کیا ہے . پس کہنا چاہئے کہ حدیث ثقلین کے مذکورہ فقرے کیلئے یہ دونوں ہی سندیں روز روشن کی طرح واضح ہیں اور ان میں کوئی خدشہ نہیں ہے .

۲- ترمذی نے اس حدیث کے متن کو لفظ "عترتی اہل بیٹی" کے ساتھ نقل کیا ہے : متن حدیث اس طرح ہے:

"إن تارک فیکم ما إن تمسکتہم بہ لن تضلوا

بعد ، أحدهما أعظم من الآخر : کتاب اللہ

حبل ممدود من السماء إلى الأرض و عترت

أهل بیت ، لن یفترقا حتی یردا علّ الحوض

فانظروا کیف تخلفون فیہما" (۱)

میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان سے متمسک رہو گے برگز گمراہ نہ ہو گے ، ان دو چیزوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے ، کتاب خدا ایک ایسی رسی ہے جو آسمان

.....

(۱) سنن دارمی جلد ۲ ص ۴۳۱، ۴۳۲

(۲) سنن ترمذی جلد ۵ ص ۶۶۳ نمبر ۳۷۷۸۸

سے زمین تک اویزاں ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں . اور یہ دونوں برگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آملیں . لہذا یہ دیکھنا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہو .

صحیح کے مؤلف مسلم اور سنن کے مؤلف ترمذی نے لفظ "اہل بیٹی" پر زور دیا ہے اور یہی مطلب ہمارے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے یہی نہیں بلکہ ان کی نقل کردہ

سندیں پوری طرح سے قابل اعتماد اور خصوصی طور پر معتبر مانی گئی ہیں.

لفظ "و سنتی" والی حدیث کی سند

وہ روایت کہ جس میں لفظ "اہل بیٹی" کی جگہ "سنتی" آیا ہے جعلی ہے . اس کی سند ضعیف ہے اور اسے اموی حکومت کے درباریوں نے گھڑا ہے .

۱- حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب مستدرک میں مذکورہ مضمون کو ذیل کی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے .

"عباس بن أب أویس" عن "أب أویس" عن "ثور بن زید الدیلم" عن "عکرمة" عن "ابن عباس" قال رسول اللہ : "یا ایہا الناس إن قد ترکت فیکم ، إن اعتصمتم بہ فلن تضلوا أبداً کتاب اللہ و سنة نبیہ."

اے لوگو! میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھاتو ہرگز گمراہ نہ ہو گے . اور وہ کتاب خدا اور سنت پیغمبرؐ ہیں. (۱)

اس حدیث کے اس مضمون کے راویوں کے درمیان ایک ایسے باپ بیٹے ہیں جو سند کی دنیا میں آفت شمار ہوتے ہیں وہ باپ بیٹے اسماعیل بن ابی اویس اور ابو اویس ہیں کسی نے بھی ان کے موثق ہونے کی شہادت نہیں دی ہے بلکہ ان کے

بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ دونوں جھوٹے اور حدیثیں گھڑنے والے تھے۔

ان دو کے بارے میں علمائے رجال کا نظریہ حافظ مزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں اسماعیل اور اس کے باپ کے بارے میں علم رجال کے محققین کا نظریہ اس طرح نقل کیا ہے: یحییٰ بن معین (جن کا شمار علم رجال کے بزرگ علماء میں ہوتا ہے) کہتے ہیں کہ ابو اویس اور ان کا بیٹا دونوں ہی ضعیف ہیں۔ اسی طرح یحییٰ بن معین سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں حدیث کے چورتھے۔ ابن معین سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابو اویس کے بیٹے پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ابو اویس کے بیٹے کے بارے میں نسائی کہتے تھے کہ وہ ضعیف اور ناقابل اعتماد ہے۔

(۱) حاکم مستدرک جلد نمبر ۱ ص ۹۳

ابوالقاسم لالکائی نے لکھا ہے کہ "نسائی" نے اس کے خلاف بہت سی باتیں کہی ہیں اور یہاں تک کہا ہے کہ اس کی حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ابن عدی (جو کہ علماء رجال میں سے ہیں) کہتے ہیں کہ ابن ابی اویس نے اپنے ماموں مالک سے ایسی عجیب و غریب روایتیں نقل کی ہیں جن کو ماننے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے (۱) ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، ابن ابی اویس کی حدیث سے ہر گز حجت قائم نہیں کی جاسکتی، چونکہ نسائی نے اس کی مذمت کی ہے (۲) حافظ سید احمد بن صدیق اپنی کتاب فتح الملک العلیٰ مینسلمہ بن شیب سے اسماعیل بن ابی اویس کے بارے میں نقل کرتے ہیں، سلمہ بن شیب کہتے ہیں کہ میں نے خود اسماعیل بن ابی اویس سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا: جب میں یہ دیکھتا کہ مدینہ والے کسی مسئلے میں اختلاف کر کے دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں تو اس وقت میں حدیث گھڑ لیتا تھا (۳) اس اعتبار سے اسماعیل بن ابی اویس کا جرم یہ ہے کہ وہ حدیثیں گھڑتا تھا ابن معین نے کہا ہے کہ وہ جھوٹا تھا اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کی حدیث کو نہ تو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے

- (۱) حافظ مزی، کتاب تہذیب الکمال ج ۳ ص ۱۲۷
(۲) مقدمہ فتح الباری ابن حجر عسقلانی ص ۳۹۱ طبع دار المعرفۃ
(۳) کتاب فتح الملک العلیٰ، حافظ سید احمد ص ۱۵

اور نہ ہی ترمذی نے، اور نہ ہی دوسری کتب صحاح میں اس کی حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ابو اویس کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ ابو حاتم رازی نے اپنی کتاب "جرح و تعدیل" میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ابو اویس کی حدیثیں کتابوں میں لکھی تو جاتی ہیں مگر ان سے حجت قائم نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس کی حدیثیں قوی اور محکم نہیں ہیں (۱) اسی طرح ابو حاتم نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ ابو اویس قابل اعتماد نہیں ہے۔ جب وہ روایت صحیح نہیں ہوسکتی جس کی سند میں یہ دو افراد ہوں تو پھر اس روایت کا کیا حال ہوگا جو ایک صحیح اور قابل عمل روایت کی مخالف ہو۔

یہاں پر قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ناقل حاکم نیشاپوری نے خود اس حدیث کے ضعیف ہونے کا اعتراف کیا ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کی سند کی تصحیح نہیں کی ہے لیکن اس حدیث کے صحیح ہونے کے لئے ایک گواہ لائے ہیں جو خود سند کے اعتبار سے کمزور اور ناقابل اعتبار ہے اسی وجہ سے یہ شاید حدیث کو تقویت دینے کے بجائے اس کو اور ضعیف بنا رہا ہے اب ہم یہاں ان کے لائے ہوئے فضول گواہ کو درج ذیل عنوان کی صورت میں ذکر کرتے ہیں:

حدیث "وسنتی" کی دوسری سند

حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو ابو ہریرہ سے مرفوع (۱) طریقہ سے ایک ایسی سند کے ساتھ جسے ہم بعد میں پیش کریں گے یوں نقل کیا ہے:

ان قد ترکت فیکم شینین لن تضلوا بعدہما : کتاب اللہ و سنت و لن یفترقا حتی یردا علّالحوض. (۲)

اس متن کو حاکم نیشاپوری نے درج ذیل سلسلہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے:

"الضب" عن "صالح بن موسیٰ الطلح" عن "عبدالعزیز بن رفیع" عن "أب صالح" عن "أب ہریرہ"

یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح جعلی ہے . اس حدیث کے سلسلہ سند میں صالح بن موسیٰ الطلحی نامی شخص ہے جس کے بارے میں ہم علم رجال کے بزرگ علماء کے نظریات کو یہاں بیان کرتے ہیں:

یحییٰ بن معین کہتے ہیں: کہ صالح بن موسیٰ قابل اعتماد نہیں ہے . ابو حاتم رازی کہتے ہیں ، اس کی حدیث ضعیف اور ناقابل قبول ہے اس نے بہت سے موثق و معتبر

.....

(۱) حدیث مرفوع: ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند سے ایک یا کئی افراد حذف ہوں اور ان کی جگہ کلمہ "رفعه" استعمال کر دیا گیا ہو تو ایسی حدیث ضعیف ہوگی. (مترجم)
(۲) حاکم مستدرک جلد ۱ ص ۹۳

افراد کی طرف نسبت دے کر بہت سی ناقابل قبول احادیث کو نقل کیا ہے .

نسائی کہتے ہیں کہ صالح بن موسیٰ کی نقل کردہ احادیث لکھنے کے قابل نہیں ہیں، ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ اس کی نقل کردہ احادیث متروک ہیں . (۱)

ابن حجر اپنی کتاب "تہذیب التہذیب" میں لکھتے ہیں : ابن جبان کہتے ہیں : کہ صالح بن موسیٰ موثق افراد کی طرف ایسی باتوں کی نسبت دیتا ہے جو ذرا بھی ان کی باتوں سے مشابہت نہیں رکھتیں سر انجام اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں: اس کی حدیث نہ تو دلیل بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی حدیث حجت ہے ابونعیم اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں: اس کی حدیث متروک ہے۔ وہ ہمیشہ ناقابل قبول حدیثیں نقل کرتا تھا (۲)

اسی طرح ابن حجر اپنی کتاب تقریب (۳) میں لکھتے ہیں کہ اس کی حدیث متروک ہے اسی طرح ذہبی نے اپنی کتاب کاشف (۴) میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ صالح بن موسیٰ کی حدیث ضعیف ہے۔

یہاں تک کہ ذہبی نے صالح بن موسیٰ کی اسی حدیث کو اپنی کتاب "میزان الاعتدال"

میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صالح بن موسیٰ کی نقل کردہ یہ حدیث اس کی ناقابل قبول احادیث میں سے ہے. (۵)

.....

(۱) تہذیب الکمال جلد ۱۳ ص ۹۶ حافظ مزی.

(۲) تہذیب التہذیب جلد ۴ ص ۳۵۵، ابن حجر

(۳) ترجمہ تقریب، نمبر ۲۸۹۱، ابن حجر

(۴) ترجمہ الکاشف، نمبر ۲۴۱۲ ذہبی

(۵) میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۳۰۲ ذہبی

حدیث "وسنتی" کی تیسری سند

ابن عبدالبر نے اپنی کتاب "تمہید" (۱) میں اس حدیث کے متن کو درج ذیل سلسلہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

"عبدالرحمن بن يحيى" عن "احمد بن سعيد" عن "محمد بن ابراهيم الدبيل" عن "عل بن زيد الفرائض" عن "الحنين" عن "كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف" عن "أبيه" عن "جده".
 امام شافعی نے كثير بن عبدالله کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جھوٹ کے ارکان میں سے ایک رکن تھا۔ (۲)
 ابوداؤد کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے افراد میں سے تھا۔ (۳)
 ابن حبان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبدالله بن كثير نے حدیث کی جو کتاب اپنے باپ اور دادا سے نقل کی ہے اس کی بنیاد جعل حدیث پر ہے اس کی کتاب سے کچھ نقل کرنا اور عبدالله بن كثير سے روایت لینا قطعاً حرام ہے صرف اس صورت میں صحیح ہے کہ اس کی بات کو تعجب کے طور پر یا تنقید کرنے کے لئے نقل کیا جائے۔ (۴)

.....

- (۱) التمهيد، جلد ۲۴ ص ۳۳۱
 (۲) تہذیب التہذیب جلد ۸ ص ۳۷۷ (دارالفکر) اور تہذیب الکمال جلد ۲۴ ص ۱۳۸
 (۳) گزشتہ کتابوں سے مأخوذ
 (۴) المجروحین، جلد ۲ ص ۲۲۱ ابن حبان

نسائی اور دارقطنی کہتے ہیں : اس کی حدیث متروک ہے امام احمد کہتے ہیں : کہ وہ معتبر راوی نہیں ہے اور اعتماد کے لائق نہیں ہے۔

اسی طرح اس کے بارے میں ابن معین کا بھی یہی نظریہ ہے تعجب انگیز بات تو یہ ہے کہ ابن حجر نے "التقریب" کے ترجمہ میں صالح بن موسیٰ کو فقط ضعیف کہنے پر اکتفاء کیا ہے اور صالح بن موسیٰ کو جھوٹا کہنے والوں کو شدت پسند قرار دیا ہے، حالانکہ علمائے رجال نے اس کے بارے میں جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا جیسے الفاظ استعمال کئے ہیں یہاں تک کہ ذہبی اس کے بارے میں کہتے ہیں : اس کی باتیں باطل اور ضعیف ہیں۔

سند کے بغیر متن کا نقل

امام مالک نے اسی متن کو کتاب "الموطا" (۱) میں سند کے بغیر اور بصورت مرسل (۲) نقل کیا ہے جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس قسم کی حدیث کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس تحقیق سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس میں "وسنتی" ہے وہ جعلی اور من گھڑت ہے اور اسے جھوٹے راویوں اور اموی حکومت کے درباریوں نے "وعترتی" کے کلمہ والی صحیح حدیث کے مقابلے میں گھڑا ہے لہذا مساجد کے خطباء،

.....

- (۱) الموطا، مالک ص ۸۸۹ حدیث ۳
 (۲) روایت مرسل : ایسی روایت کو کہا جاتا ہے جس کے سلسلہ سند سے کوئی راوی حذف ہو جیسے کہا جائے "عن رجل" یا عن بعض اصحابنا تو ایسی روایت مرسلہ ہوگی (مترجم)

مقررین اور ائمہ جماعت حضرات کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کو چھوڑ دینجو رسول ﷺ نے بیان نہیں کی ہے بلکہ اس کی جگہ صحیح حدیث سے لوگوں کو آشنا کریں۔ اور وہ حدیث جسے مسلم نے اپنی کتاب "صحیح" میں لفظ "و اہل بیٹی" کے ساتھ اور ترمذی نے لفظ "عترتی و اہل بیٹی" کے ساتھ نقل کیا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں اسی طرح علم ودانش کے متلاشی افراد کے لئے ضروری ہے کہ علم حدیث سیکھیں تاکہ صحیح اور ضعیف حدیث کو ایک دوسرے سے جدا کر سکیں۔

آخر میں ہم یہ یاد دلا دیں کہ حدیث ثقلین میں لفظ "اہل بیٹی" سے پیغمبر اسلام کی مراد حضرت علی - اور وہ حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن - اور حضرت امام حسین - ہیں۔

کیونکہ مسلم نے (۱) اپنی کتاب صحیح میں اور ترمذی نے (۲) اپنی کتاب سنن میں حضرت عائشہ سے اس طرح نقل کیا ہے :
 نزلت هذه الآية على النبي ﷺ. (إِنَّمَا يَرِيذُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ الرَّجْسُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَ يُطَهَّرَ كَمَا تُطَهَّرُونَ) فَبَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ فَاطْمَةَ وَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَائِي وَ عَلَّ خَلْفَ

.....

ظہرہ فجلاًہ بکساء ثم قال : أَللّٰهُمَّ هُوَ لَآئِ أَهْلِ بَيْتِ فَادْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً . قالت أم سلمة و أنا معهم يا نب الله؟ قال أنتِ على مكانك و أنتِ إلى الخیر. (۱)
یہ آیت (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے پیغمبر اسلامؐ نے فاطمہ، حسن و حسین کو اپنی عبا کے اندر لے لیا اس وقت علی آنحضرتؑ کے پیچھے تھے آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر بلا لیا اور فرمایا : اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہینیلیدیوں کو ان سے دور رکھ اور ان کو پاک و پاکیزہ قرار دے۔ ام سلمہ نے کہا : اے پیغمبر خداؐ کیا میں بھی ان میں سے ہوں (یعنی آیت میں جو لفظ اہل بیت آیا ہے میں بھی اس میں شامل ہوں؟) پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا تم اپنی جگہ پر ہی رہو (عبا کے نیچے مت آؤ) اور تم نیکی کے راستے پر ہو۔"

حدیث ثقلین کا مفہوم

چونکہ رسول اسلام نے عترت کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے اور دونوں کو امت کے

.....

(۱) اقتباس از حسن بن علی السقاف صحیح صفة صلاة النبيؐ ص ۲۹۴ . ۲۸۹

درمیان حجت خدا قرار دیا ہے لہذا اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں:

۱- قرآن کی طرح عترت رسولؐ کا کلام بھی حجت ہے اور تمام دینی امور خواہ وہ عقیدے سے متعلق ہوں یا فقہ سے متعلق ان سب میں ضروری ہے کہ ان کے کلام سے تمسک کیا جائے، اور ان کی طرف سے دلیل و رہنمائی مل جانے کے بعد ان سے روگردانی کر کے کسی اور کی طرف نہیں جانا چاہئے .

پیغمبر خدا کی وفات کے بعد مسلمان خلافت اور امت کے سیاسی امور کی رہبری کے مسئلہ میں دو گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لئے دلیل پیش کرنے لگا اگرچہ مسلمانوں کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے مگر اہل بیت کی علمی مرجعیت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں کیا جاسکتا .
کیونکہ سارے مسلمان حدیث ثقلین کے صحیح ہونے پر متفق ہیں اور یہ حدیث عقائد اور احکام میں قرآن اور عترت کو مرجع قرار دیتی ہے اگر امت اسلامی اس حدیث پر عمل کرتی تو اس کے درمیان اختلاف کا دائرہ محدود اور وحدت کا دائرہ وسیع ہوجاتا .

۲- قرآن مجید، کلام خدا ہونے کے لحاظ سے ہر قسم کی خطا اور غلطی سے محفوظ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں خطا اور غلطی کا احتمال دیا جائے جبکہ خداوند کریم نے اس کی یوں توصیف کی ہے:

(لَا يُتَّبِعِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (۱)

"باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے اور یہ حکیم و حمید خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ."
اگر قرآن مجید ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہے تو اس کے ہم رتبہ اور ہم پلہ افراد بھی ہر قسم

کی خطا سے محفوظ ہیں کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک یا کئی خطاکار افراد قرآن مجید کے ہم پلہ اور ہم وزن قرار پائیں۔ یہ حدیث گواہ ہے کہ وہ افراد ہر قسم کی لغزش اور خطا سے محفوظ اور معصوم ہیں البتہ یہ بات ملحوظ رہے کہ عصمت کا لازمہ نبوت نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی معصوم ہو لیکن نبی نہ ہو جیسے حضرت مریم اس آیہ شریفہ :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ (۲)

(اے مریم!) خدا نے تمہیں چن لیا اور پاکیزہ بنادیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دیا ہے ۔
کے مطابق گناہ سے تو پاک ہیں لیکن پیغمبر نہیں ہیں۔

.....

(۱) سورہ فصلت آیت ۲۴

(۲) سورہ آل عمران آیت ۴۲

شیعہ جواب دیتے ہیں

دوسرا سوال

شیعہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: عربی لغت میں "شیعہ" کے معنی ہیں پیروی کرنے والا جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے :

(وَرَّانٌ مِّنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ) (۱)

اور یقیناً (نوح) کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی ہیں۔

لیکن مسلمانوں کی اصطلاح میں شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے اپنی وفات سے قبل کئی موقعوں پر اپنے جانشین اور خلیفہ کا اعلان فرمایا تھا ان ہی موقعوں میں سے ایک ہجرت کے دسویں سال کی اٹھارہ ذی الحجہ کی تاریخ بھی ہے ۔

جو روز غدیر خم کے نام سے معروف ہے اس دن آنحضرتؐ نے مسلمانوں کے ایک عظیم مجمع میں اپنے جانشین اور خلیفہ کو اپنے بعد مسلمانوں کے لئے ان کے سیاسی، علمی اور دینی امور میں مرجع قرار دیا تھا اس جواب کی مزید وضاحت یہ ہے : پیغمبر اکرمؐ

.....

(۱) سورہ صافات آیت ۸۳

کے بعد مہاجرین اور انصار دو گروہوں میں بٹ گئے :

۱۔ ایک گروہ کا یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر خداؐ کے مسئلہ خلافت کو یونہی نہیں چھوڑ دیا تھا بلکہ آپؐ نے اپنے جانشین کو خود معین فرمایا تھا آپؐ کے جانشین حضرت علی بن ابی طالب - ہیں جو سب سے پہلے پیغمبر خداؐ پر ایمان لائے تھے ۔ مہاجرین اور انصار کے اس گروہ میں بنی ہاشم کے تمام سربرآوردہ افراد اور بعض بزرگ مرتبہ صحابہ جیسے سلمان ، ابوذر ، مقداد اور خباب بن ارت وغیرہ سرفہرست تھے مسلمانوں کا یہ گروہ اپنے اسی عقیدے پر باقی رہا، اور یہی افراد علی کے شیعہ کہلائے۔

البتہ یہ لقب پیغمبر خداؐ نے اپنی زندگی ہی میں امیر المومنین - کے پیروکاروں کو عطا فرمایا تھا آنحضرت نے حضرت علی بن ابی طالب - کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَالذِّنْفُسُ بِيَدِهِ إِنَّ هَذَا وَشِيعَتَهُ لَهُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (۱)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ (علی) اور ان کے پیروکار قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔

اس بنا پر شیعہ صدر اسلام کے مسلمانوں کے اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ منصب ولایت و امامت خدا کی طرف سے معین کیا جاتا ہے اس وجہ سے یہ گروہ اس نام سے مشہور ہوا اور یہ گروہ آج بھی راہ امامت پر گامزن ہے اور اہل بیت پیغمبرؐ کی پیروی

کرتا ہے اس وضاحت سے شیعہوں کا مرتبہ اور مقام بھی واضح ہوجاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بعض جاہل یا مفاد پرست افراد کا یہ کلام بھی باطل ہوجاتا ہے کہ شیعیت پیغمبر اکرمؐ کے بعد کی پیداوار ہے تاریخ شیعیت کی مزید اور بہتر شناخت کے

لئے "اصل الشیعہ و اصولها" "المراجعات" اور "اعیان الشیعہ" جیسی کتابوں کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔
 ۲ دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ منصب خلافت، انتخابی ہے اور اسی لئے انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی
 اور مدتوں بعد یہی گروہ "اہل سنت" یا تسنن کے نام سے مشہور ہوا اور نتیجہ میں ان دو اسلامی گروہوں کے درمیان بہت
 سے اصولوں میں مشترک نظریات ہونے کے باوجود مسئلہ خلافت اور جانشینی پیغمبر اکرمؐ کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔
 واضح رہے کہ ان فرقوں کے بانی افراد مہاجرین اور انصار تھے۔

.....

(۱) تفسیر درالمنثور جلد ۶ جلال الدین سیوطی نے سورہ بینہ کی ساتویں آیت (نَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَفْضَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی ہے۔

تیسرا سوال

کیوں حضرت علی ہی پیغمبرؐ کے وصی اور جانشین ہیں؟

جواب: ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ شیعوں کا راسخ عقیدہ یہ ہے کہ منصب خلافت، خدا عطا فرماتا ہے اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کے بعد شروع ہونے والی امامت چند اعتبار سے نبوت کی طرح ہے جس طرح یہ ضروری ہے کہ پیغمبرؐ کو خدا معین فرمائے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ پیغمبرؐ کے وصی کو بھی خدا ہی معین کرے اس حقیقت کے سلسلے میں حیات پیغمبر اکرمؐ کی تاریخ بہترین گواہ ہے کیونکہ پیغمبر اکرمؐ نے چند موقعوں پر اپنا خلیفہ معین فرمایا ہے ہم یہاں ان میں سے تین موقعوں کا ذکر کرتے ہیں:

۱۔ آغاز بعثت میں:

جب پیغمبر اسلامؐ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس آیہ کریمہ (وَنَذِرُ عَشِيرَتَكَ الْفُرْقَانِ) (۱) کے مطابق آئین توحید کی طرف

.....

(۱) سورہ شعراء آیت ۲۱۴

دعوت دیں، تو آنحضرتؐ نے ان سب کو خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا "جو بھی اس راستے میں میری مدد کرے گا، وہی میرا وصی، وزیر، اور جانشین ہوگا" پیغمبر اکرمؐ کے الفاظ یہ تھے:
 "فَأَيُّكُمْ يُؤَازِرُنِي هَذَا أَمْرٌ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ أَخٌ وَوَزِيرٌ وَخَلِيفَةٌ وَوَصِيٌّ فَيُكْم" تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے تاکہ وہی تمہارے درمیان میرا بھائی، وزیر، وصی اور جانشین قرار پائے؟

اس ملکوتی آواز پر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب نے لبیک کہا اس وقت پیغمبر اکرمؐ نے اپنے رشتہ داروں کی طرف رخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ هَذَا أَخٌ وَوَصِيٌّ وَخَلِيفَةٌ فَيُكْم فَاذْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ" (۱)

بہ تحقیق یہ (علی) تمہارے درمیان میرا بھائی، وصی اور جانشین ہے۔ اس کی باتوں کو سنو اور اس کی پیروی کرو۔

۲۔ غزوہ تبوک میں

پیغمبر خداؐ نے حضرت علی سے فرمایا:

.....
 (۱) تاریخ طبری ؛ جلد ۲ ص ۶۳. ۶۲ اور تاریخ کامل جلد ۲ ص ۴۱. ۴۰ اور مسند احمد جلد ۱ ص ۱۱۱ ،
 اور شرح نہج البلاغہ (ابن ابی الحدید) جلد ۱۳ ص ۲۱۲. ۲۱۰

"أما ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانب بعد" (۱)
 کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ویسی ہی ہے جیسی ہارون کو موسیٰ سے تھی بجز اس کے کہ
 میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔
 یعنی جس طرح ہارون - حضرت موسیٰ - کے بلا فصل وصی اور جانشین تھے ، اسی طرح تم بھی میرے خلیفہ اور جانشین
 ہو۔

۳- دسویں ہجری میں
 رسول خدا ﷺ نے حجة الوداع سے واپس لوٹتے وقت غدیر خم کے میدان میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کے درمیان
 حضرت علی - کو مسلمانوں اور مومنوں کا ولی معین کیا اور فرمایا:
 "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلٌّ مَوْلَاهُ"

"جس کا میں سرپرست اور صاحب اختیار تھا اب یہ علی اس کے مولا اور سرپرست ہیں۔"
 یہاں پر جو اہم اور قابل توجہ نکتہ ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے اپنے خطبے کے آغاز

.....
 (۲) سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ ص ۵۲۰ اور الصواعق المحرقة طبع دوم مصر باب ۹ فصل ۲ ص ۱۲۱ .

میں ارشاد فرمایا:
 "أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟"
 "کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا؟"
 اس وقت تمام مسلمانوں نے یک زبان ہو کر پیغمبر اکرم ﷺ کی تصدیق کی تھی لہذا یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ آنحضرت ﷺ کی
 اس حدیث کی رو سے جو برتری اور اختیار تام رسول ﷺ کو حاصل تھا وہی برتری و اختیار کامل علی کو حاصل ہے۔
 اس اعتبار سے یہاں پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح آنحضرت ﷺ مومنین پر برتری اور فوقیت رکھتے تھے اسی طرح
 حضرت علی - بھی مومنین کے نفسوں پر برتری اور فوقیت رکھتے ہیں اس دن حسان بن ثابت نامی شاعر نے غدیر خم کے
 اس تاریخی واقعے کو اپنے اشعار میں اس طرح نظم کیا ہے :

يناديهم يوم الغدير نبيهم
 بخم واسمع بالرسول مناديا
 فقال فمن مولاكم و نبيكم ؟
 فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا
 الهك مولانا و أنت نبينا
 و لم تلق منا ف الولاية عاصيا
 فقال له قم يا عل فنن
 رضيتك من بعد اماما و هاديا
 فمن كنت مولا ف هذا وليه
 فكونوا له أتباع صدق مواليا
 هناك دعا: اللهم وال وليه
 وكن للذ عادي علياً معاديا (۱)

(۱) المناقب (خوارزمی مالکی) ص ۸۰ اور تذکرۃ خواص الامہ (سیط ابن جوزی حنفی) ص ۲۰ اور کفایۃ الطالب ص ۱۷ (مصنف گنجی شافعی) وغیرہ...

حدیث غدیر ، اسلام کی ایسی متواتر (۱) احادیث میں سے ایک ہے جس کو شیعہ علماء کے علاوہ تقریباً تین سو ساٹھ سنی علماء نے بھی نقل کیا ہے (۲) یہاں تک کہ اس حدیث کا سلسلہ سند ایک سو دس اصحاب پیغمبرؐ تک پہنچتا ہے اور عالم اسلام کے چھبیس بزرگ علماء نے اس حدیث کے سلسلہ سند کے بارے میں مستقل طور پر کتابیں لکھی ہیں۔ مشہور مسلمان مورخ ابوجعفر طبری نے اس حدیث شریف کے سلسلہ اسناد کو دو بڑی جلدوں میں جمع کیا ہے اس سلسلے میں مزید معلومات کے لئے کتاب "الغدیر" کا مطالعہ کریں۔

.....

(۱) حدیث متواتر: وہ روایت ہے جو ایسے متعدد اور مختلف راویوں سے نقل ہوئی ہو جس میں ذرا بھی جھوٹ کا شائبہ نہ رہ جائے۔ (مترجم)
(۲) بطور نمونہ کتاب "الصواعق المحرقة" (ابن حجر) طبع دوم مصر باب ۹ اور فصل ۲ ص ۱۲۲ کا مطالعہ کریں۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

چوتھا سوال

"ائمہ" کون ہیں؟

جواب: پیغمبر گرامی اسلامؐ نے اپنی زندگی ہی میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ آپؐ کے بعد بارہ خلیفے ہوں گے اور سب قریش میں سے ہوں گے اور اسلام کی عزت انہیں خلفاء کی مرہون منت ہوگی۔

جابر بن سمرہ کہتے ہیں :

"سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يزال السلام عزيزاً إلى اثن عشر خليفة ثم قال كلمة لا أسمعها فقلت لأب: ما قال؟ فقال: كلهم من قریش." (۱)

میں نے پیغمبر خداؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کو بارہ خلفاء کے ذریعہ عزت حاصل ہوگی اور پھر پیغمبر اکرمؐ نے کوئی لفظ کہا جسے میں نے نہیں سنا میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ پیغمبر اکرمؐ نے کیا

.....

(۱) صحیح مسلم جلد ۶ صفحہ ۲ طبع مصر

فرمایا ہے۔ جواب دیا کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا کہ یہ سب قریش میں سے ہوں گے ۔

اسلام کی تاریخ میں ایسے بارہ خلفاء جو اسلام کی عزت کے محافظ اور نگہبان رہے ہوں ان بارہ اماموں کے علاوہ نہیں ملتے جن کو شیعہ اپنے امام مانتے ہیں کیونکہ جن بارہ خلفاء کا تعارف خود پیغمبر اکرمؐ نے کرایا تھا وہی آنحضرتؐ کے بلا فصل خلیفہ شمار ہوتے ہیں ۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بارہ افراد کون ہیں؟
 اگر ہم ان چار خلفاء سے کہ جن کو اہل سنت خلفاء راشدین کہتے ہیں، چشم پوشی کر لیں تو دوسرے خلفاء میں سے کوئی بھی عزت اسلام کا باعث نہیں تھا جیسا کہ اموی اور عباسی خلفاء کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ لیکن شیعوں کے سبھی بارہ ائمہ اپنے اپنے زمانے میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے پیکر تھے۔
 وہ سب پیغمبر اکرمؐ کی سنت کے محافظ تھے نیز وہ سب صحابہ کرام، تابعین اور بعد میں آنے والی نسلوں کی توجہ کا مرکز قرار پائے۔

مورخین نے بھی انکے علم اور ان کی وثاقت کی صاف لفظوں میں گواہی دی ہے۔

ان بارہ اماموں کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

۱. امام علی ابن ابی طالب -
۲. امام حسن بن علی (مجتبیٰ) -
۳. امام حسین بن علی -
۴. امام علی ابن الحسین (زین العابدین) -
۵. امام محمد بن علی (باقر) -
۶. امام جعفر بن محمد (صادق) -
۷. امام موسیٰ بن جعفر (کاظم) -
۸. امام علی بن موسیٰ (رضا) -
۹. امام محمد بن علی (تقی) -
۱۰. امام علی بن محمد (تقی) -
۱۱. امام حسن بن علی (عسکری) -
۱۲. امام مہدی (قائم) -

آپ کے سلسلے میں مسلمان محدثین نے پیغمبر اسلامؐ سے متواتر احادیث نقل کی ہیں کہ جن میں آپ کو مہدی موعود (جن کا وعدہ کیا گیا ہے) کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

یہ وہ ائمہ معصومین ہیں کہ جنکے اسمائے مبارک پیغمبر اسلامؐ نے بیان فرمائے ہیں انکی زندگی سے متعارف ہونے کیلئے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا:

۱. تذکرۃ الخواص (تذکرۃ خواص الامم)

۲. کفایۃ الاثر

۳. وفيات الاعیان

۴. اعیان الشیعہ (سید محسن امین عاملی) یہ کتاب بقیہ کتابوں کی نسبت زیادہ جامع ہے۔

پانچواں سوال

حضرت محمدؐ پر صلوات پڑھتے وقت کیوں آل کا اضافہ کرتے ہیں اور: اللہم صل علی محمد و آل محمد کہتے ہیں؟

جواب: یہ ایک مسلم اور قطعی بات ہے کہ خود پیغمبر اکرمؐ نے مسلمانوں کو درود پڑھنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے جس وقت یہ آیت شریفہ:

(رَبِّ اللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (۱) نازل ہوئی تو مسلمانوں نے آنحضرتؐ

سے پوچھا: ہم کس طرح درود پڑھیں؟

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: "لَا تُصَلُّوا عَلَّ الصَّلَاةِ الْبِتْرَاءِ" مجھ پر ناقص صلوات مت پڑھنا" مسلمانوں نے پھر آنحضرتؐ سے

سوال کیا: ہم کس طرح درود پڑھیں؟

.....

پیغمبر خداؐ نے فرمایا کہو: اللہم صلِّ علی محمد و آل محمد. (۱)
اہل بیت % قدر و منزلت کے ایک ایسے عظیم درجہ پر فائز ہیں جسے امام شافعی نے اپنے ان مشہور شعاع میں قلمبند کیا ہے:

یا اهل بیت رسول الله حُبُّكم

فرض من الله ف القرآن انزلہ

کفاکم من عظیم القدر أنکم

من لم یصلِّ علیکم لاصلاة له (۲)

ترجمہ: اے اہل بیت پیغمبرؐ آپ کی محبت کو خدا نے قرآن میں نازل کر کے واجب قرار دے دیا ہے۔ آپ کی قدر و منزلت کے لئے بس یہی کافی ہے کہ جو شخص بھی آپ پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔

.....

(۱) الصواعق المحرقة (ابن حجر) طبع دوم مکتبۃ القاہرہ مصر باب ۱۱ فصل اول ص ۱۴۶ اور ایسی روایت تفسیر در المنثور جلد ۵ سورہ احزاب کی آیت ۵۶ کے ذیل میں بھی موجود ہے اس روایت کو صاحب تفسیر نے محدثین اور کتب صحاح اور کتب مسانید (جیسے عبدالرزاق ، ابن ابی شیبہ ، احمد ، بخاری ، مسلم ، ابوداؤد ، ترمذی ، نسائی ، ابن ماجہ اور ابن مردویہ) سے نقل کیا ہے۔ مذکورہ راویوں نے کعب ابن عجرہ سے اور انہوں نے رسول خداؐ سے نقل کیا ہے۔
(۲) الصواعق المحرقة (ابن حجر) باب ۱۱ ص ۱۴۸ فصل اول اور کتاب اتحاف (شبراوی) ص ۲۹ اور کتاب مشارق الانوار (حمزوی مالکی) ص ۸۸ اور کتاب المواب (زرقاتی) اور کتاب الاسعاف (صبان) ص ۱۹۹۔

چھٹا سوال

آپ اپنے اماموں کو معصوم کیونکہتے ہیں؟

جواب: شیعوں کے ائمہ % جو کہ رسولؐ کے اہل بیت ہیں ان کی عصمت پر بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ ہم ان میں سے صرف ایک دلیل کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں:

شیعہ اور سنی دانشوروں نے یہ نقل کیا ہے کہ پیغمبر خداؐ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ ارشاد فرمایا ہے :
"ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اهل بیت و انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔" (۱)
میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں "کتاب خدا" (قرآن) اور "میرے اہل بیت" یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔

.....

(۱) مستدرک حاکم ، جزء سوم ص ۱۴۸۔ اور الصواعق المحرقة ابن حجر باب ۱۱ فصل اول ص ۱۴۹ اور اسی سے ملتی جلتی روایات کنز العمال جزء اول باب الاعتصام بالکتاب والسنة ص ۴۴ ، اور مسند احمد جزء پنجم ص ۱۸۹ ، ۱۸۲ اور دیگر کتب میں موجود ہیں۔

یہاں پر ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ : قرآن مجید ہر قسم کے انحراف اور گمراہی سے محفوظ ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وحی الہی کی طرف غلطی اور خطا کی نسبت دی جائے جبکہ قرآن کو نازل کرنے والی ذات، پروردگار عالم کی ہے اور اسے لانے والا فرشتہ وحی ہے اور اسے لینے والی شخصیت پیغمبر خداؐ کی ہے اور ان تینوں کا معصوم ہونا آفتاب کی

طرح روشن ہے اسی طرح سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ وحی کے لینے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے سلسلے میں ہر قسم کے اشتباہ سے محفوظ تھے لہذا یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ جب کتاب خدا اس پائیدار اور محکم عصمت کے حصار میں ہے تو رسول خدا ﷺ کے اہل بیت % بھی ہر قسم کی لغزش اور خطا سے محفوظ ہیں کیونکہ حدیث ثقلین میں پیغمبر خدا ﷺ نے اپنی عترت کو امت کی ہدایت اور رہبری کے اعتبار سے قرآن مجید کا ہم رتبہ اور ہم پلہ قرار دیا ہے۔ اور چونکہ عترت پیغمبر ﷺ اور قرآن مجید ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں لہذا یہ دونوں عصمت کے لحاظ سے بھی ایک جیسے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ غیر معصوم فرد یا افراد کو قرآن مجید کا ہم پلہ قرار دینے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

اسی طرح ائمہ معصومین % کی عصمت کے سلسلے میں واضح ترین گواہ پیغمبر اکرم ﷺ کا یہ جملہ ہے:

"لن یفترقا حتی یردا علی الحوض."

یہ دو ہرگز (ہدایت اور رہبری میں) ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آملینگے۔ اگر پیغمبر خدا ﷺ کے اہل بیت ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ نہ ہوں اور ان کے لئے بعض کاموں میں خطا کا امکان پایا جاتا ہو تو وہ قرآن مجید سے جدا ہو کر (معاذ اللہ) گمراہی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ کیونکہ قرآن مجید میں خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے لیکن رسول خدا ﷺ نے انتہائی شدت کے ساتھ اس فرضیہ کی نفی فرمائی ہے۔ البتہ یہ نکتہ واضح رہے کہ اس حدیث میں لفظ اہل بیت سے آنحضرت ﷺ کی مراد آپ کے تمام نسبی اور سببی رشتہ دار نہیں ہیں کیونکہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ وہ سب کے سب لغزشوں سے محفوظ نہیں تھے۔ لہذا آنحضرت ﷺ کی عترت میں سے صرف ایک خاص گروہ اس قسم کے افتخار سے سرفراز تھا اور یہ قدر و منزلت صرف کچھ گنے چنے افراد کے لئے تھی اور یہ افراد وہی ائمہ اہل بیت % ہیں جو ہر زمانے میں امت کو راہ دکھانے والے، سنت پیغمبر ﷺ کے محافظ اور آنحضرت ﷺ کی شریعت کے پاسبان تھے۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

ساتواں سوال

اذان مینا شہد ان علیاً ول اللہ کیوں کہتے ہیں اور حضرت علی - کی ولایت کی شہادت کیوں دیتے ہیں؟

جواب: بہتر ہے کہ اس سوال کے جواب میں درج ذیل نکات کو مدنظر رکھا جائے:

۱۔ تمام شیعہ مجتہدین نے فقہ سے متعلق اپنی استدلالی یا غیر استدلالی کتابوں میں اس بات کو صراحت کیساتھ بیان کیا ہے کہ ولایت علی - کی شہادت اذان اور اقامت کا جزء نہیں ہے اور کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ولایت علی کی شہادت کو اذان اور اقامت کا جزء سمجھ کر زبان پر جاری کرے۔

۲۔ قرآن مجید کی نگاہ میں حضرت علی - ولی خدا ہیں اور خداوند عالم نے اس آیت میں مومنین پر حضرت علی - کی ولایت کو بیان کیا ہے:

(رَبَّنَا وَلِيُّكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (۱)

.....

(۱) سورہ مانندہ آیت : ۵۵۔

ایمان والو بس تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ

دیتے ہیں ۔ اہل سنت کی صحیح اور مسند کتابوں نے بھی اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ آیہ شریفہ حضرت علی - کی شان میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ نے اپنی انگشت مبارک حالت رکوع میں فقیر کو عطا کی تھی (۱) جب یہ آیت حضرت امیر المومنین - کی شان میں نازل ہوئی تو شاعر اہل بیت % حسان بن ثابت نے اس واقعے کو اس طرح اپنے اشعار میں ڈھالا تھا:

آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں بخشش کی اے بہترین رکوع کرنے والے آپ پر تمام قوم کی جانیں نثار ہو جائیں۔ خداوند کریم کی ذات نے آپ کے حق میں بہترین ولایت نازل کی ہے اور اسے شریعتوں کے خلل ناپذیر احکام میں بیان کیا ہے۔

- (۱) اس سلسلے میں کہ یہ آیہ حضرت علی - کی شان میں نازل ہوئی ہے بہت سی کتابیں موجود ہیں لیکن ان تمام کتابوں کا یہاں تذکرہ ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں:
- ۱۔ تفسیر طبری جلد ۶ ص ۱۸۶۔
 - ۲۔ احکام القرآن (تفسیر جصاص) جلد ۲ ص ۵۴۲۔
 - ۳۔ تفسیر البیضاوی جلد ۱ ص ۳۴۵۔
 - ۴۔ تفسیر الدر المنثور جلد ۲ ص ۲۹۳۔

۳۔ پیغمبر گرامی اسلام ﷺ نے فرمایا
"إنما الأعمال بالنیات"

"بے شک اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے !"

اس بنا پر جب "ولایت علی" ان اصولوں میں سے ایک ہے کہ جنہیں قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور دوسری طرف سے اس جملہ (اشہد ان علیاً ول اللہ) کو اذان کا جزء سمجھ کر نہ کہا جائے تو پھر ہمارے لئے رسالت پیغمبر ﷺ کی گواہی کے ہمراہ ولایت علی کا بھی اعلان کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہاں پر ایک نکتہ کا ذکر ضروری ہے اور وہ یہ کہ اگر اذان میں کسی جملے کا اضافہ کرنا مناسب نہیں ہے اور اس کے ذریعہ شیعوں پر اعتراض کیا جاتا ہے تو ذیل میں بیان ہونے والی ان دو باتوں کی کس طرح توجیہ کی جائے گی:

۱۔ معتبر تاریخ گواہ ہے کہ یہ جملہ "ح علیٰ خیر العمل" اذان کا جزء تھا (۱) لیکن خلیفہ دوم نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ تصور کیا کہ کہیں لوگ اس جملے کو اذان میں سن کر یہ گمان نہ کر بیٹھیں کہ تمام اعمال کے درمیان صرف نماز ہی بہترین عمل ہے اور پھر جہاد پر جانا چھوڑ دیں گے لہذا اس جملے کو اذان سے حذف کر دیا اور پھر

(۱) کتاب کنز العمال، کتاب الصلوٰۃ جلد ۴ ص ۲۶۶ طبرانی سے منقول ہے: "کان بلال یؤذن بالصبح

فیقول: حی علیٰ خیر العمل۔" بلال جب اذان صبح دیتے تھے تو کہتے تھے ح علیٰ خیر العمل۔ اور سنن بیہقی جلد ۱ ص ۴۲۴ اور ص ۴۲۵ اور مؤطا جلد ۱ ص ۹۳ میں بھی یہ بات درج ہے۔

اذان اسی حالت پر باقی رہی۔ (۱)

۲۔ "الصلاة خیر من النوم" یہ جملہ رسول اکرم ﷺ کے زمانے میں اذان کا جزء نہیں تھا بعد میں یہ جملہ اذان میں بڑھا یا گیا ہے (۲)

اسی وجہ سے امام شافعی نے اپنی کتاب "الام" میں کہا ہے:

"أكره ف الأذان الصلاة خیر من النوم لأن أبا مخدوره لم يذكره" (۳)

اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کہنا مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ ابو مخدوره (جو کہ ایک راوی اور محدث ہیں) نے اس جملے کا (اپنی حدیث میں) ذکر نہیں کیا ہے۔

- (۱) کنز العرفان جلد ۲ ص ۱۵۸ اور کتاب "الصراط المستقیم" وجواب الاخبار والآثار اور شرح تجرید (قوشچی) ص ۴۸۴ میں ہے کہ: سعد المنبر و قال: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله أنا أنهى عنهم و أكرمهم و أعاقب عليهم و ه متعة النساء و متعة الحج و خ على خير العمل."
- (۲) کنز العمال، کتاب الصلوة جلد ۴ ص ۲۷۰
- (۳) دلائل الصدق جلد ۳ القسم الثانی ص ۹۷ سے ماخوذ.

آٹھواں سوال

مہدی آل محمد علیہ السلام کون بینا اور انکا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟

جواب: کچھ امور ایسے ہیں جن کے سلسلے میں تمام آسمانی شریعتیں اتفاق نظر رکھتی ہیں ان میں سے ایک امر عالمی مصلح کا وجود بھی ہے جو کہ آخری زمانہ میں ظہور کرے گا اس سلسلے میں صرف مسلمان نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی بھی اس کی آمد کے منتظر ہیں جو پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریگا اسکے لئے اگر کتاب عہد عتیق اور عہد جدید کا مطالعہ کیا جائے تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ (۱)

اس سلسلہ میں پیغمبر خدا کی حدیث بھی موجود ہے کہ جسے مسلمان محدثین نے نقل کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

"الولم یبق من الدهر إلا یوم لبعث الله رجلاً من

.....

- (۱) عہد عتیق: مز امیر داؤد، مز مور ۹۷-۹۶ اور کتاب دانیال نبی باب ۱۲ عہد جدید: انجیل متی باب ۲۴ انجیل مرقوس باب ۱۳ انجیل لوقا باب ۲۱ (جہاں اس موعود کے بارے میں بیان ہوا ہے جس کے انتظار میں دنیا ہے)۔

أهل بیت یملأها عدلاً کما ملئت جوراً" (۱)

اگر زمانے کا صرف ایک ہی دن باقی بچے گا تب بھی خداوند عالم میرے خاندان میں سے ایک فرد کو مبعوث کرے گا جو کہ اس جہان کو اسی طرح سے عدالت سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہوگا۔

جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ دنیا میں ایک مصلح کے آنے کا عقیدہ تمام آسمانی شریعتوں میں موجود ہے اسی طرح اہل سنت کی صحیح اور مسند کتابوں میں بھی امام مہدی عجل کے بارے میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں اور ان دونوں (شیعہ اور سنی) اسلامی فرقوں کے محدثین اور محققین نے امام زمانہ عجل کے بارے میں بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں۔ (۲)

روایات کے اس مجموعے میں انکی وہ خصوصیات اور نشانیاں بیان ہوئی ہیں جو صرف شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکری - کے بلا فصل فرزند ہی مینپائی جاتی ہیں (۳) ان روایات کے مطابق امام مہدی - پیغمبر اکرمؐ کے ہم نام ہیں (۴)۔

.....

- (۱) صحیح ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۰۷ طبع مصر مطبعہ تازیہ، ینابیع المودة ص ۳۲ اور کتاب نور الابصار باب ۲ ص ۱۵۴۔
- (۲) جیسے کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان تالیف محمد بن یوسف بن الکنجی الشافعی ہے اور اسی طرح کتاب البرهان فی علامات مہدی آخر الزمان تالیف علی بن حسام الدین جو کہ متقی ہندی کے نام سے مشہور ہیں اور اسی طرح کتاب المہدی والمہدویت تالیف احمد امین مصری ہے البتہ شیعہ علماء نے اس بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جنہیں شمار کرنا آسان کام نہیں ہے جیسے کتاب الملاحم والفتن وغیرہ۔
- (۳) ینابیع المودة باب ۷۶، مناقب میں جابر بن عبد اللہ انصاری کی روایت ہے۔
- (۴) صحیح ترمذی، مطبوعہ دہلی ۱۳۴۲، جلد ۲ ص ۴۶ اور مسند احمد مطبوعہ مصر ۱۳۱۳

یہاں اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ اس قسم کی طولانی عمر نہ تو علم اور دانش کے خلاف ہے اور نہ ہی منطق وحی سے تضاد رکھتی ہے آج کی علمی دنیا انسانوں کی طبیعی عمر کو بڑھانا چاہ رہی ہے صاحبان علم اور سائنسدانوں کا یہ

یقین ہے کہ ہر انسان کے اندر لمبی عمر گزارنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور اگر اسے بعض آفتوں اور بیماریوں سے بچالیا جائے تو قوی امکان ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائیگی۔

تاریخ نے بھی اپنے دامن میں ایسے افراد کے نام محفوظ کئے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں طولانی عمر پائی ہے۔
قرآن مجید حضرت نوح - کے بارے میں فرماتا ہے:

(قَلْبَتْ فِيهِمْ لَفَ سَنَةٍ لَأَ حَمْسِينَ عَامًا) (۱)

اور (نوح) اپنی قوم کے درمیان نوسو پچاس سال رہے۔

اور اسی طرح قرآن مجید حضرت یونس - کے بارے میں فرماتا ہے:

(فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّيْتُ فَبَطْنِهِ أَلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ) (۲)

پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی (مچھلی) کے شکم میں رہتے۔

اسی طرح قرآن مجید اور تمام مسلمانوں کے نظریہ کے مطابق حضرت خضر - اور حضرت عیسیٰ - ابھی تک باحیات ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔

.....

(۱) سورہ عنکبوت آیت ۱۴

(۲) سورہ صافات آیت ۱۴۴

نواں سوال

اگر شیعہ حق پر بینتو وہ اقلیت میں کیوں ہیں؟ اور دنیا کے اکثر مسلمانوں نے ان کو کیوں نہیں مانا ہے؟

جواب: کبھی بھی حق اور باطل کی شناخت ماننے والوں کی تعداد میں کمی یا زیادتی کے ذریعہ نہیں ہوتی۔ آج اس دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اسلام قبول نہ کرنے والوں کی بہ نسبت ایک پنجم یا ایک ششم ہے جبکہ مشرق بعید میں رہنے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بت اور گائے کی پوجا کرتے ہیں یا ماورائے طبیعت کا انکار کرتے ہیں۔ چین جس کی آبادی ایک ارب سے بھی زیادہ ہے کیمونیزم کا مرکز ہے اور ہندوستان جس کی آبادی تقریباً ایک ارب ہے اسکی اکثریت ایسے افراد کی ہے جو گائے اور بتوں کی پوجا کرتی ہے اسی طرح بہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت میں ہونا حقانیت کی علامت ہو قرآن مجید نے اکثر و بیشتر اکثریت کی مذمت کی ہے اور بعض اوقات اقلیت کی تعریف کی ہے اس سلسلے میں ہم چند آیات کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں:

۱- (وَلَا تَجِدُ كَثْرًا مِّنْ شَاكِرِينَ) (۱)

اور تم اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔

۲- (رَنَ وَ لِيَاؤَةً لَّا الْمُنْفُورُونَ وَلَكِنَّ كَثْرًا مِّنْ لَّا يَعْلَمُونَ) (۲)

اس کے ولی صرف متقی اور پرہیزگار افراد ہیں لیکن ان کی اکثریت اس سے بھی بے خبر ہے۔

۳- (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورِ) (۳)

اور ہمارے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔

لہذا کبھی بھی حقیقت کے متلاشی انسان کو اپنے آئین کی پیروی کرنے والوں کو اقلیت میں دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیئے اور اسی طرح اگر وہ اکثریت میں ہوجائیں تو فخر ومباہات نہیں کرنا چاہیئے بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہر انسان اپنا چراغ عقل روشن کرے اور اس کی روشنی سے بہرہ مند ہو۔

ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علی - کی خدمت میں عرض کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگ جمل میں آپ کے

مخالفین اکثریت پر ہونے کے باوجود باطل پر ہوں؟

امام - نے فرمایا :

.....

- (۱)سورہ اعراف آیت ۱۷
(۲)سورہ انفال آیت ۳۴
(۳)سورہ سبأ آیت ۱۳

"إِنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ لَا يَعْرِفَانِ بِأَقْدَارِ الرِّجَالِ . اعرف الحق تعرف أهله . اعرف الباطل تعرف أهله. "

حق اور باطل کی پہچان افراد کی تعداد سے نہیں کی جاتی بلکہ تم حق کو پہچان لو خود بخود اہل حق کو بھی پہچان لو گے اور باطل کو پہچان لو تو خود بخود اہل باطل کو بھی پہچان لو گے .

ایک مسلمان شخص کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے کو علمی اور منطقی طریقے سے حل کرے اور اس آیت شریفہ (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (۱) کو چراغ کی مانند اپنے لئے مشعل راہ قرار دے اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو اگرچہ اہل تشیع تعداد میں اہل سنت سے کم ہیں . لیکن اگر صحیح طور پر مردم شماری کی جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک چوتھائی افراد شیعہ ہیں جو کہ دنیا کے مختلف مسلمان نشین علاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. (۲)

واضح رہے کہ ہر دور مینشیعوں کے بڑے بڑے علماء اور مشہور مولفین اور مصنفین رہے ہیں اور یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اکثر اسلامی علوم کے موجد اور بانی شیعہ ہی تھے جن میں سے چند یہ ہیں :

علم نحو کے موجد ابوالاسود دہلی

.....

- (۱) سورہ اسراء آیت ۳۶
(۲) زیادہ وضاحت کیلئے "اعیان الشیعہ" جلد ۱ بحث ۱۲ اور صفحہ ۱۹۴ کی طرف مراجعہ کیا جائے.

علم عروض کے بانی خلیل بن احمد
علم صرف کے موجد معاذ بن مسلم بن ابی سارہ کوفی
علم بلاغت کو فروغ دینے والوں میں سے ایک ابو عبد اللہ بن عمران کاتب خراسانی
(مرزبان) (۱)

شیعہ علماء اور دانشوروں کی کثیر تالیفات (جن کو شمار کرنا بہت دشوار کام ہے) کی شناخت کے لئے کتاب (الذریعہ الی تصانیف الشیعہ) کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا.

.....

- (۱) اس بارے میں سید حسن صدر کی کتاب "تاسیس الشیعہ" کا مطالعہ کریں.

شیعہ جواب دیتے ہیں

دسواں سوال

رجعت کیا ہے اور آپ اس پر کیوں عقیدہ رکھتے ہیں؟

جواب: عربی لغت میں رجعت کے معنی ہیں "لوٹنا" اسی طرح اصطلاح میں "موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کچھ انسانوں کے اس دنیا میں لوٹنے" کو رجعت کہا جاتا ہے یہ رجعت حضرت مہدی - کے ظہور کے دور میں واقع ہوگی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ تو عقل کے مخالف ہے اور نہ ہی منطوق وحی کے برخلاف ہے۔ اسلام اور دوسرے ادیان الہی کی نظر میں انسان کے وجود میں جو چیز اصل ہے وہ اس کی روح ہے جسے "نفس" کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے یہی وہ چیز ہے جو بدن کے فنا ہوجانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور اپنی جاودانہ زندگی بسر کرتی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی نگاہ میں پروردگار عالم کی ذات قادر مطلق ہے اور کوئی بھی چیز اس کی لامحدود قدرت کو محدود نہیں کر سکتی۔ ان دو مختصر مقدموں کی روشنی میں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ رجعت کا مسئلہ عقل کی نگاہ سے ایک ممکن امر ہے کیونکہ تھوڑی سی فکر سے یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ انسانوں کے ایک گروہ کو اس دنیا میں دوبارہ واپس بھیجنا ان کی پہلی خلقت کی بہ نسبت کئی گنا زیادہ آسان ہے۔

لہذا وہ پروردگار جس نے انہیں پہلے مرحلے میں خلق فرمایا ہے یقیناً ان کو دوبارہ اس دنیا میں لوٹانے پر قادر ہے اگر وحی الہی کی بنیاد پر رجعت کو گزشتہ امتوں میں تلاش کیا جائے تو اس کے مختلف نمونے مل سکتے ہیں۔

قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے:

(وَذُ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَخَذْنَاكَمُ الصَّاعِقَةُ وَنُتِمُّ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (۱)

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو آشکارا طور پر نہ دیکھ لیں جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید شکر گزار بن جاؤ۔

اسی طرح قرآن مجید ایک اور مقام پر حضرت عیسیٰ - کی زبان سے نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے:

(وَحَى الْمَوْئِي بِذُنِ اللَّهِ) (۲)

.....

(۱) سورہ بقرہ آیت: ۵۶، ۵۵

(۲) سورہ آل عمران آیت: ۴۹

اور میں خدا کی اجازت سے مردوں کو زندہ کرونگا۔

قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ رجعت کو ایک ممکن امر قرار دیا ہے بلکہ انسانوں کے ایک ایسے گروہ کی تائید بھی کی جو اس دنیا سے جاچکا تھا اور پھر اس دنیا میں دوبارہ واپس آگیا قرآن مجید نے مندرجہ ذیل دو آیتوں میں ان دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جو مرنے کے بعد قیامت سے قبل دنیا میں واپس آئے ہیں۔

(وَذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ مُمْمَةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فُهُمْ يُورِثُونَ) (۱)

اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک چلنے والی مخلوق کو نکال کر کھڑا کر دیں گے جو ان سے یہ بات کرے کہ کون لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور اس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی ایک فوج اکھٹا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے اور پھر ان کو روک لیا جائے گا۔

ان دو آیتوں کے ذریعہ قیامت سے پہلے واقع ہونے والی رجعت کے سلسلے میں استدلال کرنے کے لئے مندرجہ ذیل نکات کی طرف توجہ ضروری ہے:

.....

(۱) سورہ نمل آیت ۸۲ اور ۸۳۔

۱۔ تمام مسلمان مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دو آیتیں قیامت سے متعلق ہیں اور پہلی آیت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک

نشانی کو بیان کر رہی ہے، اس سلسلے میں جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر "الدر المنثور" میں ابن ابی شیبہ اور انہوں نے حذیفہ سے نقل کیا ہے کہ "خروج دابة" (چلنے والی مخلوق کا نکلنا) قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ (۱)

۲۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو محشور کیا جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس دن ہر امت میں سے ایک خاص گروہ کو محشور کیا جائے گا۔ قرآن مجید نے قیامت میں تمام انسانوں کے محشور ہونے کے بارے میں یوں فرمایا ہے:

(ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ) (۲)

وہ ایک دن ہے جس میں تمام لوگ جمع کئے جائیں گے۔ (۳)

اور ایک جگہ فرماتا ہے:

(وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا مِنْهُمْ حَدًّا) (۴)

.....

(۱) تفسیر درمنثور جلد ۵ ص ۱۷۷۔ سورہ نمل کی آیت نمبر ۸۲ کی تفسیر کے ذیل میں۔

(۲) سورہ بود آیت: ۱۰۳

(۳) تفسیر درمنثور جلد ۳ ص ۳۴۹۔ اس دن کی تفسیر قیامت سے کی گئی ہے۔

(۴) سورہ کہف آیت: ۴۷

اور جس دن ہم پہاڑوں کو حرکت میں لائیں گے اور تم زمین کو بالکل کھلا ہوا دیکھو گے اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس اعتبار سے قیامت کے دن تمام انسان محشور ہوں گے اور یہ بات انسانوں کے کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں ہے۔

۳۔ ان دو گذشتہ آیتوں میں دوسری آیت اس بات کا صریح اعلان کر رہی ہے کہ امتوں میں سے کچھ خاص افراد کو محشور کیا جائے گا اور تمام انسانوں کو محشور نہیں کیا جائے گا کیونکہ آیہ کریمہ میں ہے:

(ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا)

اور اس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی ایک فوج اکھٹا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے۔

آیت کا یہ حصہ واضح طور پر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمام انسانوں کو محشور نہیں کیا جائے گا۔

نتیجہ: ان تین مختصر مقدموں کی روشنی میں یہ مطلب اچھی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ آیات الہی کی تکذیب کرنے والے انسانوں میں سے ایک خاص گروہ کا محشور ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا اور یہی بات دوسری آیت سے بھی سمجھ میناتی ہے۔

کیونکہ قیامت کے دن کوئی خاص گروہ محشور نہیں ہوگا بلکہ اس دن تمام انسان محشور کئے جائیں گے اس بیان کے ساتھ ہمارا یہ دعویٰ صحیح ثابت ہوجاتا ہے کہ انسانوں کے ایک خاص گروہ کو ان کی موت کے بعد قیامت سے پہلے اس دنیا میں لوٹایا جائے گا اور اسی کا نام "رجعت" ہے۔

اسی طرح اہل بیت پیغمبرؐ نے بھی جو ہمیشہ قرآن کے ہمراہ ہیں اور کلام الہی کے حقیقی مفسر ہیں اس سلسلے میں اپنی احادیث کے ذریعہ وضاحت فرمائی ہے یہاں پر ہم اختصار کی وجہ سے ان کے صرف دو ارشادات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

امام صادق - فرماتے ہیں:

"أيام الله ثلاثة يوم القائم - ويوم الكرّة، و يوم القيامة"

خدا کے تین دن ہیں حضرت امام مہدی - کا دن، رجعت کا دن، اور قیامت کا دن۔

اور ایک مقام پر فرماتے ہیں:

"ليس منا من لم يؤمن بكرتنا."

جو شخص ہماری رجعت کو قبول نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

آخر میں مناسب ہے کہ دو اہم نکتوں کو واضح کر دیا جائے:

۱۔ رجعت کا فلسفہ

رجعت کے اسباب و علل کے بارے میں غور کرنے سے دو اہم مقاصد سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ رجعت کے ذریعہ اسلام کی حقیقی عزت و عظمت اور کفر کی ذلت کو آشکار کیا جائے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ بالیمان اور نیک انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا مل سکے اور کافروں اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاسکے۔

۲۔ رجعت اور تناسخ (۱) کے درمیان واضح فرق

یہاں پر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ شیعہ جس رجعت پر عقیدہ رکھتے ہیں: اس کا لازمہ تناسخ کا معتقد ہونا نہیں ہے کیونکہ نظریہ تناسخ کی بنیاد قیامت کے انکار پر ہے اور تناسخ والے اپنے اس نظریے کے مطابق دنیا کو دائمی طور پر گردش میں جانتے ہیں اور اس کا ہر دور اپنے پہلے والے دور کی تکرار ہے۔

اس نظریے کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دوبارہ اس دنیا میں پلٹتی ہے اور کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جاتی ہے اور اگر وہ روح گزشتہ زمانے میں کسی نیک آدمی کے جسم میں رہی ہو تو اب اس زمانے میں کسی ایسے آدمی کے بدن میں منتقل ہو جائے گی جس کی زندگی خوشی و مسرت کے ساتھ بسر ہونے والی ہو لیکن اگر

.....

(۱) تناسخ: یعنی روح کا ایک بدن سے نکل کر دوسرے میں داخل ہوجانا جسے آواگون کہتے ہیں۔ (مترجم)

یہ روح گزشتہ زمانے میں کسی بدکار آدمی کے جسم میں رہی ہو تو اس زمانے میں ایسے آدمی کے بدن میں منتقل ہو جائے گی جس کی زندگی سختیوں میں گزرنے والی ہو اس نظریے کے اعتبار سے روح کا اس طرح سے واپس لوٹنا ہی اسکی قیامت ہے۔

جبکہ رجعت کا عقیدہ رکھنے والے اسلامی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے قیامت اور معاد پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ کسی روح کا ایک بدن سے کسی دوسرے بدن میں منتقل ہونا محال ہے (۱) اہل تشیع صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک گروہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آنے گا اور چند حکمتوں اور مصلحتوں کے پورا ہوجانے کے بعد پھر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ گروہ بھی باقی انسانوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس اعتبار سے روح ایک بدن سے جدا ہونے کے بعد ہرگز دوسرے بدن میں منتقل نہیں ہوگی۔

.....

(۱) صدر المتألمین نے اپنی کتاب اسفار (جلد ۹ باب ۸ فصل اول ص ۳) میں نظریہ تناسخ کو باطل کرتے ہوئے یوں تحریر فرمایا ہے: اگر ایک بدن سے نکلی ہوئی روح کسی دوسرے بدن میں داخل ہوجانے جبکہ وہ بدن ابھی جنین کی شکل میں رحم مادر میں ہے یا اس کے علاوہ کسی دوسرے مرحلہ میں ہو تو اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ ایک ہی چیز بالقوہ بھی ہو اور بالفعل بھی، اور جو چیز بالفعل ہے اس کا بالقوہ ہونا محال ہے اس لئے کہ ان دونوں میں مادی و اتحادی ترکیب ہے اور ایسی ترکیب طبیعی محال ہے جس میں دو ایسے امر جمع ہو رہے ہوں جن میں سے ایک بالفعل ہے اور دوسرا بالقوہ۔

گیارہواں سوال

جس شفاعت کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟

جواب: شفاعت، اسلام کی ایک ایسی مسلم الثبوت اصل ہے جسے تمام اسلامی فرقوں نے قرآن کی آیات اور روایات کی پیروی کرتے ہوئے قبول کیا ہے بس صرف ان کے درمیان شفاعت کے نتیجے کے بارے میں اختلاف نظر ہے۔ شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا محترم انسان جو پروردگار کے نزدیک صاحب مقام و منزلت ہو وہ خداوند متعال سے کسی شخص کے گناہوں کی بخشش یا اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرے۔

رسول گرامی فرماتے ہیں:
"أعطيت خمسا... و أعطيت الشفاعة فادخرتها لأمت" (۱)

.....

(۱) مسند احمد جلد ۱ ص ۳۰۱ ، صحیح بخاری جلد ۱ ص ۹۱ ط مصر.
پانچ چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں ... اور شفاعت مجھے عطا ہوئی ہے جسے میں نے اپنی امت کے لئے ذخیرہ کر دیا ہے۔

شفاعت کا دائرہ

قرآن مجید کی نگاہ میں وہ شفاعت صحیح نہیں ہے جو کسی قید اور شرط کے بغیر ہو بلکہ شفاعت صرف مندرجہ ذیل صورتوں میں مؤثر ہوگی:

۱ شفاعت کرنے والا اس وقت شفاعت کر سکتا ہے جب کہ اسے شفاعت کرنے کے لئے خداوند عالم کی جانب سے اجازت حاصل ہو لہذا صرف وہ لوگ شفاعت کر سکتے ہیں جنہیں خدا سے معنوی قربت بھی حاصل ہو اور وہ اذن شفاعت بھی رکھتے ہوں قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے:

(لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا) (۱)

اس وقت کوئی شفاعت کے سلسلے میں صاحب اختیار نہ ہوگا مگر وہ جس نے رحمان کی بارگاہ میں شفاعت کا عہد لے لیا ہے۔

اور ایک اور جگہ پر فرماتا ہے:

.....

(۱) سورہ مریم آیت: ۸۷

(يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ ذُنُوبُهُ

الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا) (۱)

اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو۔

۲. ضروری ہے کہ جو شخص شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ شفاعت کرنے والے کے ذریعے فیض الہی کو لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

یعنی اس شخص کا خدا سے ایمانی رابطہ اور شفاعت کرنے والے سے روحانی رشتہ ٹوٹتے نہ پائے ، لہذا کفار چونکہ خداوند کریم سے ایمانی رابطہ نہیں رکھتے اور اسی طرح بعض گنہگار مسلمان جیسے بے نمازی اور قاتل افراد چونکہ شفاعت کرنے والے سے روحانی رشتہ توڑ بیٹھے ہیں لہذا یہ سب شفاعت کے مستحق قرار نہیں پائیں گے۔

قرآن مجید بے نمازی اور منکر قیامت کے بارے میں فرماتا ہے:

(فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) (۲)

تو انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔

اور قرآن مجید ظالم افراد کے بارے میں فرماتا ہے :

(مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) (۳)

اور ظالموں کیلئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی سفارش کرنے والا جس کی بات سن لی جائے۔

.....

(۱) سورہ طہ آیت: ۱۰۹

(۲) سورہ مدثر آیت : ۴۸

(۳) سورہ غافر آیت : ۱۸

شفاعت کا فلسفہ

شفاعت ، توبہ کی طرح امید کا ایک دروازہ ہے جسے ایسے لوگوں کیلئے قرار دیا گیا ہے جو گناہ اور ضلالت کے راستے کو چھوڑ کر اپنی باقی ماندہ عمر کو خدا کی اطاعت میں گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ جب بھی گنہگار انسان یہ احساس کر لے کہ صرف چند محدود شرطوں کیساتھ (نہ یہ کہ ہر حالت میں) شفاعت کرنیوالے کی شفاعت کا مستحق ہوسکتا ہے تو پھر وہ کوشش کریگا کہ ان شرطوں کا خیال رکھے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے۔

شفاعت کا نتیجہ

مفسرین کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ شفاعت کا نتیجہ گناہوں کی بخشش ہے یا اس کا نتیجہ بلندی درجات ہے لیکن اگر پیغمبرگرامیؐ کے اس ارشاد کو ملاحظہ کیا جائے جس میں آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ :
"انَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتٍ" (۱)
"میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے ان افراد کے لئے ہوگی جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔"
تو پہلا نظریہ زیادہ صحیح نظر آتا ہے۔

.....

(۱) سنن ابن ماجہ جلد ۲ ص ۵۸۳، مسند احمد جلد ۳ ص ۲۱۳، سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۵۳۷، سنن ترمذی جلد ۴ ص ۴۵

شیعہ جواب دیتے ہیں

بارہواں سوال

کیا حقیقی شفاعت کرنے والوں سے بھی شفاعت کی درخواست کرنا شرک ہے؟

اس سوال کی وضاحت میں کہا جاتا ہے کہ شفاعت کرنا خدا کا مخصوص حق ہے جیسا کہ قرآن کریم اس بارے میں فرماتا ہے:

(قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا) (۱)

کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔
لہذا غیر خدا سے شفاعت کی درخواست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے مطلق حق کو اس کے بندے سے مانگا جائے درحقیقت اس قسم کی درخواست غیر خدا کی عبادت کرنا ہے اور یہ "توحید عبادی" کے خلاف ہے۔

جواب: یہاں اس کی ذات یا اس کی خالقیت اور اسکے مدبر ہونے میں شرک نہیں ہے یہاں شرک سے مراد اسکی عبادت میں شرک کرنا ہے۔

.....

(۱) سورہ زمر آیت ۴۴

واضح ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت ، عبادت کی صحیح تفسیر پر منحصر ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کی تفسیر کرنے کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا تاکہ کہیں ہم مخلوق کے مقابلے میں ہر قسم کے خضوع اور کسی بندے سے کسی قسم کی

درخواست کرنے کو عبادت قرار نہ دے بیٹھیں بلکہ قرآن مجید کی اس صراحت کے مطابق فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا ہے:

(فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحٍ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ جَمْعًا) (۱)

جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا۔

یہ سجدہ اگرچہ خداوند عالم کے فرمان سے انجام پایا تھا پھر بھی یہ حضرت آدم کی عبادت کے لئے نہ تھا ورنہ خداوند اس کے بجالاتے کا حکم نہ دیتا۔

اور اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں اور خود حضرت یعقوب نے جناب یوسف کو سجدہ کیا تھا: (وَرَفَعَ بَوَيْهٖ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا) (۲)

اور انہوں نے والدین کو تخت کے اوپر پر جگہ دی اور سب لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اگر اس قسم کا خضوع حضرت یوسف کی عبادت ہوتا تو اسے نہ تو حضرت یعقوب

.....

(۱) سورہ ص آیت: ۷۲ اور ۷۳

(۲) سورہ یوسف آیت: ۱۰۰

جیسے معصوم نبی بجالاتے اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے اس کام سے راضی ہوتے جب کہ کوئی خضوع بھی سجدے سے بڑھ کر نہیں ہوسکتا اسی بنیاد پر ضروری ہے کہ ہم خضوع اور کسی غیر سے درخواست کرنے کو عبادت سے جدا سمجھیں۔

عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی موجود کو خدا تصور کرے اور پھر اس کی عبادت کرے یا کسی شے کو مخلوق خدا تو جانے لیکن یہ تصور کرے کہ خدائی امور جیسے کائنات کی تدبیر اور گناہوں کی بخشش اس شے کے سپرد کر دئیے

گئے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کے لئے ہمارا خضوع ایسا ہو کہ نہ تو ہم اسے خدا سمجھیں اور نہ ہی یہ تصور کریں کہ خدائی امور اس کے سپرد کر دئیے گئے ہیں تو ہمارا یہ خضوع اس کے احترام کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا بالکل ایسے ہی

جیسے فرشتوں نے جناب آدم اور جناب یعقوب کے بیٹوں نے جناب یوسف کا احترام کیا تھا یہی بات شفاعت کے سلسلے میں بھی کہی جائے گی کہ اگر یہ تصور کیا جائے کہ شفاعت کرنے کا حق پوری طرح سے ان شفاعت کرنے والوں کے

سپرد کر دیا گیا ہے اور وہ بغیر کسی قید و شرط کے شفاعت کرسکتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں تو اس طرح کا عقیدہ شرک کا سبب بنتا ہے کیونکہ ہم نے خدا کے کام کو غیر خدا سے طلب کیا ہے لیکن جب بھی ہم تصور

کریں کہ خدا کے کچھ پاک بندے ایسے ہیں جو شفاعت کے مالک تو نہیں ہیں لیکن کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ گناہ گار بندوں کی شفاعت کرنے کی اجازت رکھتے ہیں کیونکہ شفاعت کی اہم ترین شرط یہی اذن اور رضایت پروردگار ہے تو

واضح ہے کہ ایک صالح بندے سے اس طرح کی شفاعت طلب کرنے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسے خدا مان بیٹھے ہیں اسی طرح اس کا لازمہ یہ بھی نہیں ہے کہ خدا کے امور اس کو سونپ دئیے گئے ہیں بلکہ ہم نے اس سے ایسے کام کی

درخواست کی ہے جس کی وہ لیاقت رکھتا ہے ہم پیغمبر خدا کی حیات طیبہ میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ گناہ گار افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مغفرت کی درخواست کرتے تھے۔ لیکن آنحضرتؐ کی بھی ان کی طرف شرک کی

نسبت نہیں دیتے تھے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں پیغمبر خدا سے ایک روایت موجود ہے کہ جس میں آپؐ فرماتے ہیں: "أندرون ما خیرن رب اللیلة؟ قلنا: اللہ ورسولہ أعلم۔ قال: فنه خیرن بین أن یدخل نصف أمت الجنة و بین الشفاعة فاخترت الشفاعة۔ قلنا یرسول اللہ: ادع اللہ أن یجعلنا من أهلها قال ھ لکل مسلم" (۱)

کیا تم جانتے ہو کہ آج کی رات میرے رب نے مجھے کن چیزوں کے درمیان اختیار دیا تھا؟ ہم نے کہا خدا اور اس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبرؐ نے فرمایا اس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو میری ادھی امت جنت میں چلی جائے یا پھر میں شفاعت کا حق لے لوں میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا۔ ہم نے کہا اے پیغمبر خدا

.....

(۱) سنن ابن ماجہ جلد ۲ ، باب ذکر الشفاعة ص ۵۸۶

اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمیں بھی شفاعت حاصل کرنے کے لائق بنادے۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: شفاعت

ہر مسلمان کے لئے ہوگی۔

اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصحاب پیغمبرؐ آنحضرت سے شفاعت کی درخواست کیا کرتے تھے اسی لئے انہوں نے پیغمبرؐ سے کہا تھا "ادع اللہ"۔

قرآن مجید بھی فرماتا ہے:

(وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) (۱)

اور اے کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔

اسی طرح قرآن مجید ایک اور مقام پر جناب یعقوب کے بیٹوں کی درخواست کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے:

(قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ) (۲)

.....

(۱) سورہ نساء آیت: ۶۴

(۲) سورہ یوسف آیت: ۹۷

ان لوگوں نے کہا باباجان اب آپ ہمارے گناہوں کے لئے استغفار کریں ہم یقیناً خطاکار تھے۔

اور حضرت یعقوب نے بھی ان کے لئے استغفار کرنے کا وعدہ کیا اور ہرگز اپنے بیٹوں پر شرک کا الزام نہیں لگایا۔

(قَالَ سَوْفَ سَتُغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ بُرَّ الْعَفْوَ الرَّحِيمُ) (۱)

انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے حق میں استغفار کروں گا کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔

.....

(۱) سورہ یوسف آیت: ۹۸

تیریہاں سوال

کیا غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے؟

جواب: عقل اور منطق وحی کے اعتبار سے تمام انسان بلکہ کائنات کے تمام موجودات جس طرح وجود میں آنے کے لئے

خدا کے محتاج ہیں اسی طرح دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لئے بھی اس کے محتاج ہیں۔

قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَنَّمُوا الْفَقْرَاءَ لِي اللَّهُ وَاللَّهُ بُرُّ الْعَنُّ الْحَمِيدُ) (۱)

اے لوگو تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمدوثنا ہے۔

اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہر قسم کی فتح اور نصرت پروردگار جہان کے قبضہ قدرت میں ہے۔

.....

(۱) سورہ فاطر آیت ۱۵

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) (۱)

مدد تو ہمیشہ صرف خدائے عزیز و حکیم ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔

اسلام کی اس مسلم الثبوت اصل کی بنیاد پر ہم سب مسلمان اپنی ہر نماز میں اس آیہ شریفہ کی تلاوت کرتے ہیں:

(يَاكَ نَعْبُدُ وَيَاكَ نَسْتَعِينُ)

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔

اس مقدمہ کی روشنی میں اب ہم مذکورہ سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہیں گے کہ: غیر خدا سے مدد مانگنا دو صورتوں میں قابل تصور ہے:

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم کسی انسان یا موجودات میں سے کسی سے اس طرح مدد مانگیں کہ اسے اس کے وجود یا اس کے اپنے کاموں میں مستقل سمجھیں اور اسے مدد پہنچانے میں خدا سے بے نیاز تصور کریں۔ ایسی صورت میں شک نہیں ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہوگا جیسے قرآن مجید درج ذیل آیت میناس کو باطل قرار دیتا ہے۔
(قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُرَادُ بِكُمْ سُوءًا أَوْ رَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) (۲)

.....

(۲)سورہ آل عمران آیت ۱۲۶

(۲)سورہ احزاب آیت: ۱۷

کہہ دیجئے کہ اگر خدا برائی کا ارادہ کر لے یا بھلائی ہی کرنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے اور یہ لوگ اس کے علاوہ نہ کوئی سرپرست پاسکتے ہیں اور نہ مددگار۔
۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی انسان سے مدد مانگتے وقت اسے خدا کی مخلوق اور اس کا ضرورت مند بندہ سمجھا جائے اور یہ عقیدہ ہو کہ وہ اپنی طرف سے کسی قسم کا استقلال نہیں رکھتا اور اسے بندوں کی مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت خدا ہی نے عطا فرمائی ہے۔
اس فکر کی رو سے اگر کسی چیز میں ہم اس انسان سے مدد مانگ رہے ہیں تو وہ اس سلسلے میں واسطے کا کام کرتا ہے کیونکہ پروردگار نے اسے بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لئے "وسیلہ" قرار دیا ہے اس قسم کی مدد مانگنا حقیقت میں خداوند کریم سے مدد مانگنا ہے کیونکہ اسی نے ان وسائل اور اسباب کو وجود بخشا ہے اور اسی نے اس شخص کو انسانوں کی حاجات کو پورا کرنے کی صلاحیت اور قدرت عطا کی ہے اصولی طور پر بشر کی زندگی کی اساس ان اسباب اور مسببات سے مدد مانگنے پر استوار ہے اس طرح کہ ان سے مدد نہ لینے کی صورت میں انسان کی زندگی اضطراب کا شکار ہو جائیگی یہاں پر ہم اگر انہیں اس نگاہ سے دیکھیں کہ وہ خدا کی مدد پہنچانے کا وسیلہ ہیں اور ان کا وجود اور ان کی تاثیر خدا کی طرف سے ہے تو ان سے مدد مانگنا کسی بھی اعتبار سے توحید اور یکتا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔
ایک موحد اور خدا شناس کسان جو کہ زمین پانی ہوا اور سورج سے مدد لے کر ایک بیج کو ایک پھل دار درخت میں تبدیل کر دیتا ہے تو حقیقت میں وہ کسان خدا سے مدد مانگتا ہے کیونکہ وہی ہے کہ جس نے ان اسباب کو قدرت اور استعداد بخشی ہے۔

واضح ہے کہ یہ مدد مانگنا توحید اور یکتا پرستی سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے بلکہ قرآن مجید تو ہمیں بعض چیزوں (جیسے صبر اور نماز) سے مدد لینے کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے:

(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) (۱)

صبر اور نماز کے ذریعہ مدد مانگو۔

واضح ہے کہ صبر اور پائیداری انسان کا کام ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان سے مدد حاصل کریں جب کہ اس قسم کی استعانت خدا سے مانگی جانے والی اس مدد کی مخالف نہیں ہے جسے اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے ذریعہ طلب کیا جاتا ہے۔

.....

(۱)سورہ بقرہ آیت ۴۵

چودھواں سوال

کیا دوسروں کو پکارنا ان کی عبادت اور شرک ہے؟

جواب: اس قسم کے سوال کا سبب قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جو اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے غیر خدا کو پکارنے سے روکتی ہیں:

(وَالْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ حَدًّا) (۱)

اور مساجد سب اللہ کے لئے ہیں لہذا اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔

(وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ) (۲)

اور خدا کے علاوہ کسی ایسے کو آواز نہ دو جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔

بعض لوگ اس قسم کی آیتوں کو سند بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اولیائے خدا اور صالحین کو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پکارنا شرک اور ان کی عبادت ہے۔

.....

(۱) سورہ جن آیت: ۱۸

(۲) سورہ یونس آیت: ۱۰۶

جواب: اس سوال کے جواب میں مناسب یہ ہے کہ سب سے پہلے ان دو کلمات "دعا" اور "عبادت" کے معنی واضح کر دئے جائیں اس میں شک نہیں کہ عربی زبان

میں لفظ دعا کے معنی ندا اور پکارنے کے ہیں اور لفظ عبادت کے معنی پرستش کے ہیں اس اعتبار سے یہ دونوں الفاظ ہرگز ہم معنی نہیں ہیں یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہر ندا اور طلب عبادت اور پرستش ہے اس کی مندرجہ ذیل دلیلیں ہیں:

۱۔ قرآن مجید میں لفظ دعوت بعض ایسی جگہوں پر استعمال ہوا ہے جہاں ہرگز یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے مراد عبادت ہے جیسے:

(قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمًا لَّيْلًا وَنَهَارًا) (۱)

انہوں نے کہا پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا اور رات میں بھی۔

کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت نوح - کی مراد یہ تھی کہ میں نے دن رات ان کی عبادت کی ہے۔

لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دعوت (پکارنا) اور عبادت ہم معنی کلمات ہیں لہذا اگر کوئی شخص پیغمبر اکرمؐ یا کسی اور صالح بندے سے مدد طلب کرے اور انہیں پکارے تو اس کا یہ عمل ان کی عبادت شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ دعوت کے معنی میں پرستش کی بہ نسبت زیادہ عمومیت ہے۔

.....

(۱) سورہ نوح آیت: ۵

۲۔ آیات کے اس مجموعے میں دعا سے مراد ہر قسم کا پکارنا نہیں ہے بلکہ ایک خاص قسم کا پکارنا مقصود ہے جو کہ لفظ

پرستش کا لازمہ ہوسکتا ہے کیونکہ یہ آیات ان بت پرستوں کے بارے میں آئی ہیں جو اپنے بتوں کو چھوٹے خدا تصور

کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ بت پرستوں کا خضوع ان کی دعا اور ان کی فریاد یہ سب ایسے بتوں

کے مقابلے میں تھا جنہیں وہ حق شفاعت اور مغفرت کا مالک سمجھتے تھے ان کی نگاہ میں یہ بت دنیا اور آخرت کے امور میں مستقل طور پر حق تصرف رکھتے تھے اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان شرائط کے ساتھ ان موجودات کو پکارنا اور

ان سے کسی قسم کی التجا کرنا ان کی عبادت شمار ہوگا کیونکہ وہ ان کو خدا کی حیثیت سے پکارتے تھے اور اس کا

بہترین گواہ درج ذیل آیت ہے:

(فَمَا غَنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ) (۱)

عذاب کے آجانے کے بعد انکے وہ خدا بھی کام نہ آئے جنہیں وہ خدا کو چھوڑ کر پکار رہے تھے۔

لہذا یہ آیتیں ہماری بحث سے کوئی ربط نہیں رکھتیں کیونکہ ہماری بحث کا موضوع ایک بندے کا دوسرے بندے سے کوئی التجا کرنا ہے جبکہ یہ بندہ اسے نہ تو اپنا خدا سمجھتا ہے اور نہ ہی اسے دنیا و آخرت کے امور میں اپنا مالک ، تام الاختیار یا تصرف کرنے

.....

(۱)سورہ ہود آیت : ۱۰۱ .

والا ماننا ہے بلکہ اسے خدا کا ایسا معزز اور محترم بندہ سمجھتا ہے جسے پروردگار عالم نے منصب رسالت یا امامت سے نوازا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اس کی دعا کو اپنے بندوں کے حق میں قبول کرے گا اس سلسلے میں خدا فرماتا ہے :
(وَلَوْ أَنَّهُمْ ذُكِّرُوا بِذُنُوبِهِمْ لَنَسَّوْا اللَّهَ لَمَّا كَانُوا إِلَهًا كَوْنًا) (۲)
اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔
۳. مذکورہ آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ دعوت سے مراد ہر قسم کی درخواست اور حاجت نہیں ہے بلکہ اس دعوت سے مراد پرستش ہے اسی لئے ایک آیت میں لفظ دعوت کے بعد بلا فاصلہ اسی معنی کیلئے لفظ "عبادت" استعمال کیا گیا ہے
(وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِ سَتَجِبُ لَكُمْ نَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) (۱)

.....

(۱)سورہ نساء آیت: ۶۴ .

(۲)سورہ غافر آیت ۶۰

اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا اس آیت کے آغاز میں لفظ "ادعونی" ہے اور اس کے ذیل میں لفظ "عبادت" آیا ہے یہ اس بات پر شاہد ہے کہ ان آیتوں میں لفظ دعوت سے مراد وہ التجا و استغاثہ ہے جو ایسے موجودات سے کیا جاتا ہے جنہیں وہ خدا کی صفات سے متصف سمجھتے تھے۔

نتیجہ: ان گزشتہ تین مقدموں کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان آیات میں قرآن مجید کا بنیادی مقصد بت پرستوں کو بتوں کو پکارنے سے روکنا ہے وہ بت کہ

جنہیں وہ خدا کا شریک یا مدبر یا صاحب شفاعت جانتے تھے کفار کا ان بتوں کے سامنے ہر قسم کا خضوع اور احترام یا گریہ اور استغاثہ کرنا اور ان سے شفاعت کا طلب کرنا یا پھر ان سے اپنی حاجت طلب کرنا یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ ان بتوں کو چھوٹے خدا سمجھتے تھے اور انہیں خدا کے کاموں کو انجام دینے والا تصور کرتے تھے بت پرستوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا نے دنیا اور آخرت کے متعلق بعض کام ان بتوں کو سونپ دئے ہیں اس اعتبار سے ان آیتوں کا ایک ایسے روح رکھنے والے انسان سے استغاثہ کرنے سے کیا تعلق ہے جو پکارنے والے کی نظر میں ذرہ برابر بھی بندگی کی حد سے باہر قدم نہیں رکھتا بلکہ اس کی نگاہ میں خداوند عالم کا محبوب و محترم بندہ ہے .

اگر قرآن مجید فرماتا ہے:

(وَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ حَدًا) (۱)

"اور مساجد سب اللہ کے لئے ہیں لہذا اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔"

تو اس سے مراد پرستش کے قصد سے پکارنا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت کے عرب بتوں ، ستاروں ، فرشتوں ، اور جنوں کی پوجا کیا کرتے تھے یہ آیت اور اس قسم کی دوسری آیتیں کسی شخص یا کسی شے کو معبود سمجھ کر پکارنے سے متعلق ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ان موجودات سے اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہوئے کسی چیز کی درخواست کرنا ان کی عبادت شمار ہوگا لیکن ان آیتوں کا کسی ایسے شخص سے دعا کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کے سلسلے میں دعا کرنے والا شخص اس کی ربوبیت یا الوہیت کا قائل نہیں ہے بلکہ اس شخص کو خدا کا بہترین اور محبوب بندہ سمجھتا ہے؟

ممکن ہے کوئی یہ تصور کرے کہ اولیائے خدا کو صرف ان کی زندگی میں پکارنا جائز ہے اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں پکارنا شرک ہے۔

اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے:

۱. ہم خاک میں سونے والے جسموں سے مدد نہیں مانگتے ہیں بلکہ ایسے نیک بندوں کی پاک ارواح (جیسے پیغمبرؐ اور اماموں) سے مدد مانگتے ہیں جو قرآنی آیات کی

صراحت کے مطابق زندہ ہیں اور شہداء سے بھی بلند و بالا مقام و منزلت کے ساتھ برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں اور اگر ہم ان کی قبروں پر جا کر ان سے اس طرح کی درخواستیں کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں آکر ہم ان کی مقدس ارواح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ روایات کے مطابق یہ مقدس مقامات وہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

۲. ان اولیائے الہی کا بقید حیات ہونا یا حیات سے منصف نہ ہونا شرک یا توحید کی شناخت کا معیار نہیں ہے اور ہماری گفتگو شرک اور توحید کے معیار کے بارے میں ہے لیکن ان کو پکارنا فائدہ مند ہے یا نہیں؟ تو یہ ہماری گفتگو سے خارج ہے۔

البتہ اس مسئلے (کہ کیا اس قسم کے استغاثے فائدہ مند ہیں؟) کے بارے میں گفتگو اس کی مناسب جگہ پر موجود ہے۔

.....

(۱) سورہ جن آیت ۱۸

شیعہ جواب دیتے ہیں

پندرہواں سوال

"بدائی" کیا ہے اور آپ اس کا عقیدہ کیونکر کہتے ہیں؟

جواب: عربی زبان میں لفظ "بدائی" کے معنی آشکار اور ظاہر ہونے کے ہیں اسی طرح شیعہ علماء کی اصطلاح میں ایک انسان کے نیک اور پسندیدہ اعمال کی وجہ سے اس کی تقدیر و سرنوشت میں تبدیلی کو "بدائی" کہا جاتا ہے۔ عقیدہ بداء شیعیت کی آفاقی تعلیمات کے عظیم عقائد میں سے ایک ہے جسکی اساس وحی الہی اور عقلی استدلال پر استوار ہے۔ قرآن کریم کی نگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ اس کے مقدرات کے سامنے ہمیشہ کے لئے باندھ دئیے گئے ہوں بلکہ سعادت کی راہ اس کے لئے کھلی ہوئی ہے اور وہ راہ حق کی طرف پلٹ کر اپنے اچھے اعمال کے ذریعہ اپنی زندگی کے انجام کو بدل سکتا ہے اس حقیقت کو اس کتاب الہی نے ایک عمومی اور مستحکم اصل کے عنوان سے یوں بیان کیا ہے:

(رَبِّ اللّٰهِ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِنَفْسِهِمْ) (۱)

اور خداوند کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے۔

اور ایک جگہ فرماتا ہے:

(وَلَوْ اَنَّ بَلَّ الْقُرَىٰ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالرَّضٰى) (۲)

اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لئے زمین اور آسمان سے برکتوں کے راستے کھول

دیتے۔

اسی طرح حضرت یونس کی سرنوشت کی تبدیلی کے بارے میں فرماتا ہے:

(قُلْ لَئِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّيْلُ فَبَطْنِهِ أَيْ يَوْمَ يُعْتُونَ) (۳)

پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی (مچھلی) کے شکم میں رہ جاتے۔

اس آخری آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے حضرت یونس نبی کا قیامت تک اس خاص زندان میں

باقی رہنا قطعی تھا لیکن ان کے نیک اعمال

.....

(۱) سورہ رعد آیت: ۱۱

(۲) سورہ اعراف آیت: ۹۶

(۳) سورہ صافات آیت ۳ اور ۱۴۴

(تسبیح پروردگار) نے ان کی سرنوشت کو بدل دیا اور انہیں اس سے نجات دلائی۔

یہ حقیقت اسلامی روایات میں بھی بیان ہوئی ہے پیغمبر گرامیؐ اس بارے میں فرماتے ہیں:

"إن الرجل لئُحرم الرزق بالذنب بصيئه ولا يرد القدر

إلا الدعاء ولا يزيد ف العمر إلا البر" (۱)

بے شک انسان گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے ایسے موقع پر دعا کے علاوہ کوئی اور چیز اس کی

تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی اور چیز اس کی عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔

یہ اور اس قسم کی دوسری روایتوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ انسان گناہ کی بدولت روزی سے محروم

ہو جاتا ہے؛ لیکن اپنے نیک اعمال (جیسے دعا مانگنے) کے ذریعہ اپنی سرنوشت کو بدل سکتا ہے اور نیکی کر کے اپنی

عمر بڑھا سکتا ہے۔

نتیجہ: قرآنی آیات اور سنت پیغمبرؐ سے استفادہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس مادی دنیا کے اسباب و مسببات

اور کاموں کے ردعمل سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے یا اولیائے خدا (جیسے نبی یا امام) انسان کو خبر دے کہ اگر اس کا طرز

عمل اسی طرح رہا تو اس کا مقدر یہ ہوگا لیکن اگر وہ یکبارگی کسی وجہ سے اپنے کردار کو سنوار لے تو

.....

(۱) مسند احمد جلد ۵ ص ۲۷۷ او مستدرک حاکم جلد ۱ ص ۹۳ اور اسی کی مثل "التاج الجامع للاصول" جلد ۵ ص ۱۱۱ میں

ہے۔

اپنی عاقبت کو تبدیل کر سکتا ہے۔

اس حقیقت کو خدا کی وحی، پیغمبر اسلامؐ کی سنت اور عقل سلیم کے فیصلوں سے درس لے کر حاصل کیا گیا ہے۔ اور اسے

شیعہ علماء بداء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

یہاں پر اس بات کا واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ "بداء" کی تعبیر عالم تشیع سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ تعبیر

پیغمبر اکرمؐ کی احادیث اور اہل سنت کی تحریروں میں بھی

دکھائی دیتی ہے نمونے کے طور پر ذیل کی حدیث ملاحظہ ہو جس میں پیغمبر اکرمؐ نے اس کلمہ کو استعمال فرمایا ہے:

"ویدالله عز وجل أن يبتليهم" (۱)

اس نکتے کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ بداء کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خداوند کریم کے لامتناہی علم میں کسی قسم کی تبدیلی

رونا ہوتی ہے کیونکہ خداوند کریم ابتداء ہی سے انسانی افعال کے فطری نتائج اور بدا کا موجب بننے والے عوامل سے

بخوبی آگاہ ہے اس بات کی قرآن مجید نے بھی خبر دی ہے۔

(يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أَلْكِتَابُ) (۲)

اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔

.....
(۱) النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ، مؤلف مجدالدین مبارک بن محمد جزری جلد ۱ ص ۱۰۹
(۲) سورہ رعد آیت: ۳۹

لہذا خداوند کریم ظہور بداء کے وقت اس حقیقت کو ہمارے لئے آشکار کرتا ہے جو ازل ہی سے اس کے علم میں تھی اسی وجہ سے امام صادق - فرماتے ہیں:
"مابدا الله ف شاء الا كان ف علمه قبل ان يبدوله" (۱)
خداوند عالم کو کسی چیز میں بداء نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ ازل سے اس کو اس کا علم تھا .

بداء کا فلسفہ

اس میں شک نہیں کہ اگر انسان یہ جان لے کہ تقدیر کو بدلنا اس کے اختیار میں ہے تو وہ ہمیشہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے درپے رہے گا اور زیادہ سے زیادہ ہمت اور کوشش کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا . دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جس طرح توبہ اور شفاعت انسان کو ناامیدی اور مایوسی سے نجات دلاتی ہے اسی طرح بداء کا عقیدہ بھی انسان کے اندر نشاط اور شادابی پیدا کرتا ہے اور انسان کو روشن مستقبل کا امیدوار بناتا ہے کیونکہ اس عقیدے کی روشنی میں انسان یہ جان لیتا ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے اور ایک بہتر مستقبل حاصل کر کے اپنی عاقبت سنوار سکتا ہے۔

.....
(۱) اصول کافی جلد ۱ کتاب التوحید باب البداء حدیث نمبر ۹

سولہواں سوال

کیا شیعہ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں؟

جواب: شیعوں کے مشہور علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے اور وہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے بعینہ وہی آسمانی کتاب ہے جو پیغمبر گرامیؐ پر نازل ہوئی تھی اور اس میں کسی قسم کی زیادتی اور کمی نہیں ہوئی ہے اس بات کی وضاحت کے لئے ہم یہاں چند شواہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں:
۱ پروردگار عالم مسلمانوں کی آسمانی کتاب کی صیانت اور حفاظت کی ضمانت لیتے ہوئے فرماتا ہے :
(رَبَّنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرَبَّنَا لَهُ الْحَافِظُونَ) (۱)
ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

.....
(۱) سورہ حجر آیت: ۹

واضح ہے کہ ساری دنیا کے شیعہ چونکہ قرآن مجید کو اپنے افکار اور کردار کے لئے اساس قرار دیتے ہیں لہذا اس آیت شریفہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اس آیت میں موجود اس پیغام پر کامل ایمان رکھتے ہیں جو اس کتاب خدا کی حفاظت سے متعلق ہے .
۲ شیعوں کے عظیم الشان امام حضرت علی - نے جو ہمیشہ پیغمبر اکرمؐ کے ہمراہ رہے اور کاتبان وحی میں سے ایک تھے

آپ سے لوگوں کو مختلف موقعوں اور مناسبتوں پر اسی قرآن کی طرف دعوت دی ہے ہم اس سلسلے میں ان کے کلام کے کچھ حصے یہاں پیش کرتے ہیں:

"واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذ لا يغش والهاد الذ لا يضل" (۱)

جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو ہرگز خیانت نہیں کرتا اور ایسا رہنمائی کرنے والا ہے جو ہرگز گمراہ نہیں کرتا۔

"ان الله سبحانه لم يعط أحداً بمثل هذا القرآن فنه حبل الله المتين و سببه المبين" (۲)

بے شک خداوند سبحان نے کسی بھی شخص کو اس قرآن کے جیسی نصیحت عطا نہیں فرمائی ہے کہ یہی خدا کی محکم رسی اور اس کا واضح وسیلہ ہے۔

.....

(۱) نہج البلاغہ (صبحی صالح) خطبہ نمبر ۱۷۶

(۲) گذشتہ حوالہ۔

"ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحہ و سراجاً لا يخبو توقده. ومنهاجاً لا يضل نهجہ . . . و فرقاناً لا يخمد برهانه" (۱)
اور پھر آپؐ پر ایسی کتاب کو نازل کیا جس کا نور کبھی خاموش نہیں ہوگا اور جس کے چراغ کی لو کبھی مدہم نہیں پڑ سکتی وہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی بھٹک نہیں سکتا اور ایسا حق اور باطل کا امتیاز ہے جو کمزور نہیں پڑ سکتا۔

شیعوں کے امام عالی شان امام حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب - کے گہریار کلام سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ قرآن مجید کی مثال ایک ایسے روشن چراغ کی ہے جو ہمیشہ اپنے پیروکاروں کے لئے مشعل راہ کا کام کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوگی جو اس کے نور کے خاموش ہوجانے یا انسانوں کی گمراہی کا باعث ہو۔

۳ شیعہ علماء اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ نے یہ ارشاد فرمایا ہے :

"میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا (قرآن) ہے اور دوسرے میرے اہل بیت

.....

(۱) نہج البلاغہ (صبحی صالح) خطبہ نمبر ۱۹۸

ہیں جب تک تم ان دو سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔"

یہ حدیث اسلام کی متواتر احادیث میں ایک ہے جسے شیعہ اور سنی دونوں فرقوں نے نقل کیا ہے۔

اس بیان سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ شیعوں کی نظر میں کتاب خدا میں ہرگز کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوسکتی کیونکہ اگر قرآن مجید میں تحریف کا امکان ہوتا تو اس سے تمسک اختیار کر کے ہدایت حاصل کرنا اور گمراہی سے بچنا ممکن نہ ہوتا اور پھر اس کے نتیجے میں قرآن اور حدیث ثقلین کے درمیان ٹکراؤ ہوجاتا۔

۴ شیعوں کے اماموں نے اپنی روایات میں (جنہیں ہمارے تمام علماء اور فقہا نے نقل کیا ہے) اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید حق و باطل اور صحیح و غلط کے درمیان فرق پیدا کرنے والا ہے لہذا ہر کلام حتیٰ ہم تک پہنچنے والی روایات کے لئے ضروری ہے کہ انہیں قرآن مجید کے میزان پر ٹولا جائے اگر وہ قرآنی آیات کے مطابق ہوں تو حق ہیں ورنہ باطل۔ اس سلسلے میں شیعوں کی فقہ اور احادیث سے متعلق کتابوں میں بہت سی روایتیں ہیں ہم یہاں ان میں سے صرف ایک روایت کو پیش کرتے ہیں :

امام صادق - فرماتے ہیں:

"مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف" (۱)

ہر وہ کلام باطل ہے جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔

.....

(۱) اصول کافی جلد ۱ کتاب فضل العلم باب الاخذ بالسنة و شواہد الكتاب روایت نمبر ۴

اس قسم کی روایات سے بھی یہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی تحریف نہیں کی جاسکتی اسی وجہ سے اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔

۵. شیعوں کے بزرگ علماء نے ہمیشہ اسلام اور تشیع کی آفاقی تہذیب کی حفاظت کی ہے ان سب نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن مجید میں کبھی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے چونکہ ان تمام بزرگوں کے نام تحریر کرنا دشوار کام ہے لہذا ہم بطور نمونہ ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں :

۱. جناب ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بابویہ قمی (متوفی ۳۸۱ ھ) جو "شیخ صدوق" کے نام سے مشہور ہیں فرماتے ہیں :
"قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں باطل نہیں آسکتا وہ پروردگار حکیم و علیم کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے اور اسی کی ذات اس کو نازل کرنے اور اس کی محافظت کرنے والی ہے۔" (۱)

۲. جناب سید مرتضیٰ علی بن حسین موسوی علوی (متوفی ۴۳۶ ھ) جو "علم الہدیٰ" کے نام سے مشہور ہیں فرماتے ہیں:

.....

(۱) الاعتقادات ص ۹۳

"پیغمبر اکرم ﷺ کے بعض صحابہ کرام جیسے عبد اللہ بن مسعود اور ابی بن کعب وغیرہ نے بارہا آنحضرت ﷺ کے حضور میں قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا ہے یہ بات اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن مجید ترتیب کے ساتھ اور ہر طرح کی کمی یا پرآگندگی کے بغیر اسی زمانے میں جمع کر کے مرتب کیا جاچکا تھا۔" (۱)

۳. جناب ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (متوفی ۴۶۰ ھ) جو کہ شیخ الطائفہ کے نام سے مشہور تھے وہ فرماتے ہیں:
"قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا نظریہ کسی بھی اعتبار سے اس مقدس کتاب کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ تمام مسلمان اس

بات پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی طرح کی زیادتی واقع نہیں ہوئی ہے اسی طرح ظاہراً سارے مسلمان متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی ہے اور یہ نظریہ کہ (قرآن میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی ہے) ہمارے مذہب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے جناب سید مرتضیٰ نے بھی اس بات کی تائید کی ہے اور روایات کے ظاہری مفہوم سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کچھ لوگوں نے بعض ایسی روایتوں کی طرف اشارہ کیا ہے

.....

(۱) مجمع البیان جلد ۱ ص ۱۰ میں سید مرتضیٰ کی کتاب "المسائل الطرابلسیات" سے نقل کرتے ہوئے۔

جن میں قرآن مجید کی آیات میں کمی یا ان کے جابجا ہوجانے کا ذکر ہے ایسی روایتیں شیعہ اور سنی دونوں ہی کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ روایتیں خبر واحد ہیں ان سے نہ تو یقین حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ (۱) لہذا بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی روایتوں سے روگردانی کی جائے۔" (۲)

۴. جناب ابو علی طبرسی صاحب تفسیر "مجمع البیان" فرماتے ہیں:

"پوری امت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں ہوا ہے اس کے برخلاف ہمارے مذہب کے کچھ افراد اور اہل سنت کے درمیان "حشویہ" فرقہ کے ماننے والے قرآن مجید کی آیات میں کمی کے سلسلے میں بعض روایتوں کو پیش کرتے ہیں لیکن جس چیز کو ہمارے مذہب نے مانا ہے جو صحیح بھی ہے وہ اس نظریہ کے برخلاف ہے۔" (۳)

۵. جناب علی بن طاووس حلی (متوفی ۶۶۴ ھ) جو "سید بن طاووس" کے نام سے مشہور ہیں فرماتے ہیں :

.....

(۱) ایسی روایت جو حد تواتر تک نہ پہنچتی ہو اور اس کے صدق کا یقین بھی نہ کیا جاسکتا ہو وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ (مترجم)

(۲) تفسیر تبيين جلد ۱ ص ۳.

(۳) تفسیر مجمع البيان جلد ۱ ص ۱۰.

"شیعوں کی نگاہ میں قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے" (۱)

۶۔ جناب شیخ زین الدین عاملی (متوفی ۸۷۷ھ) اس آیہ کریمہ:

(رَبَّنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرَبَّنَا لَهُ لِحَافِظُونَ) کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"یعنی ہم قرآن مجید کو ہر قسم کی تبدیلی اور زیادتی سے محفوظ رکھیں گے" (۲)

۷۔ کتاب احقاق الحق کے مؤلف سید نور اللہ تستری (شہادت ۱۰۱۹ھ) جو کہ شہید ثالث کے لقب سے مشہور ہیں فرماتے ہیں:

"بعض لوگوں نے شیعوں کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ وہ قرآن میں تبدیلی کے قائل ہیں لیکن یہ سارے شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ان میں سے بہت تھوڑے سے افراد ایسا عقیدہ رکھتے ہیں اور ایسے افراد شیعوں کے درمیان مقبول نہیں ہیں

(۳)۔

۸۔ جناب محمد بن حسین (متوفی ۱۰۳۰ھ) جو "بہاء الدین عاملی" کے نام سے مشہور ہیں فرماتے ہیں کہ:

.....

(۱) سعد السعود ص ۱۱۴۴

(۲) اظہار الحق ج ۲ ص ۱۳۰

(۳) آلاء الرحمن ص ۲۵

"صحیح یہ ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی کمی و زیادتی سے محفوظ ہے اور یہ کہنا کہ امیر المومنین علی۔ کا نام قرآن مجید سے حذف کر دیا گیا ہے" ایک ایسی بات ہے جو علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے جو شخص بھی تاریخ اور روایات کا مطالعہ کرے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید متواتر روایات اور پیغمبر اکرمؐ کے ہزاروں اصحاب کے نقل کرنے کی وجہ سے ثابت و استوار ہے اور پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں ہی پورا قرآن جمع کیا جاچکا تھا" (۱)

۹۔ کتاب وافی کے مؤلف جناب فیض کاشانی (متوفی ۱۰۹۱ھ) نے آیت (رَبَّنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرَبَّنَا لَهُ لِحَافِظُونَ) کو اور اس جیسی آیتوں کو قرآن مجید میں عدم تحریف کی دلیل قرار دیتے ہوئے یوں لکھا ہے:

"اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید میں تحریف واقع ہو ساتھ ہی ساتھ تحریف پر دلالت کرنے والی روایتیں کتاب خدا کی مخالف بھی ہیں لہذا ضروری ہے کہ اس قسم کی روایات کو باطل سمجھا جائے" (۲)

۱۰۔ جناب شیخ حر عاملی (متوفی ۱۱۰۴ھ) فرماتے ہیں کہ:

"تاریخ اور روایات کی چھان بین کرنے والا شخص اس بات کو

.....

(۱) آلاء الرحمن ص ۲۵

(۲) تفسیر صافی جلد ۱ ص ۵۱

اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید، متواتر روایات اور ہزاروں صحابہ کرام کے نقل کرنے سے ثابت و محفوظ رہا ہے اور یہ قرآن پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں ہی منظم صورت میں جمع کیا جاچکا تھا" (۱)

۱۱۔ یزرگ محقق "جناب کاشف الغطاء" اپنی معروف کتاب "کشف الغطاء" میں لکھتے ہیں:

"اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید خداوند کریم کی صیانت و حفاظت کے سائے میں ہر قسم کی کمی و تبدیلی سے محفوظ رہا ہے اس بات کی گواہی خود قرآن مجید بھی دیتا ہے اور ہر زمانے کے علماء نے بھی ایک زبان ہو کر اس کی گواہی دی ہے اس سلسلے میں ایک مختصر سے گروہ کا مخالفت کرنا قابل اعتناء نہیں ہے"۔

۱۲۔ اس سلسلہ میں انقلاب اسلامی کے رہبر حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان بھی موجود ہے جسے ہم ایک واضح شاہد کے طور پر پیش کرتے ہیں:

ہر وہ شخص جو قرآن مجید کے جمع کرنے اس کی حفاظت کرنے، اس کو حفظ کرنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کے لکھنے کے بارے میں مسلمانوں کی احتیاط سے آگاہی رکھتا ہو وہ قرآن کے سلسلے میں نظریہ تحریف کے باطل ہونے کی گواہی دے گا اور وہ

.....

(۱) آلاء الرحمن ص ۲۵

روایات جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں جن کے ذریعے استدلال نہیں کیا جاسکتا یا پھر مجہول ہیں جس سے ان کے جعلی ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے یا یہ روایتیں قرآن کی تاویل اور تفسیر کے بارے میں ہیں یا پھر کسی اور قسم کی ہیں جن کے بیان کے لئے ایک جامع کتاب تالیف کرنے کی ضرورت ہے اگر موضوع بحث سے خارج ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو یہاں پر ہم قرآن کی تاریخ بیان کرتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کرتے کہ ان چند صدیوں میں اس قرآن پر کیسے حالات گزرے ہیں اور اس بات کو بھی روشن کر دیتے کہ جو قرآن مجید آج ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ بعینہ وہی آسمان سے آنے والی کتاب ہے اور وہ اختلاف جو قرآن کے قاریوں کے درمیان پایا جاتا ہے وہ ایک جدید امر ہے جس کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے لے کر جبرئیل امین - پیغمبر ﷺ کے قلب مطہر پر نازل ہوئے تھے۔" (۱)

نتیجہ: مسلمانوں کی اکثریت خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی اس بات کی معتقد ہے کہ یہ آسمانی کتاب بعینہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر خدا ﷺ پر نازل ہوئی تھی اور وہ ہر قسم کی تحریف، تبدیلی، کمی اور زیادتی سے محفوظ ہے۔

.....

(۱) تہذیب الاصول، جعفر سبحانی (دروس امام خمینی قدس سرہ) جلد ۲ ص ۹۶

ہمارے اس بیان سے شیعوں کی طرف دی جانے والی یہ نسبت باطل ہوجاتی ہے کہ وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں اگر اس تہمت کا سبب یہ ہے کہ چند ضعیف روایات ہمارے ہاں نقل ہوئی ہیں تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ان ضعیف روایات کو شیعوں کے ایک مختصر فرقے ہی نے نہیں بلکہ اہل سنت کے بہت سے مفسرین نے بھی اپنے ہاں نقل کیا ہے یہاں ہم نمونے کے طور پر ان میں سے بعض روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی اپنی تفسیر میں ابوبکر انبازی سے اور نیز ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ احزاب (جس میں تہتر آیتیں ہیں) پیغمبر ﷺ کے زمانے میں سورہ بقرہ (جس میں دو سو چھیالیس آیتیں ہیں) کے برابر تھا اور اسوقت اس سورہ میں آیہ "رجم" بھی شامل تھی۔ (۱)

(لیکن اب سورہ احزاب میں یہ آیت نہیں ہے) اور نیز اس کتاب میں عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

"پیغمبر ﷺ کے زمانے میں سورہ احزاب میں دو سو آیتیں تھیں پھر بعد میں جب مصحف لکھا گیا تو جتنی اب اس سورہ میں آیتیں ہیں ان سے زیادہ نہ مل سکیں" (۲)

۲۔ کتاب "الاتقان" کے مؤلف نقل کرتے ہیں کہ "ابی" کے قرآن میں ایک سو سولہ

.....

(۱) تفسیر قرطبی جز ۱۴ ص ۱۱۳ سورہ احزاب کی تفسیر کی ابتداء میں۔ (۲) گذشتہ حوالہ

سورے تھے کیونکہ اس میں دو سورے حقد اور خلع بھی تھے۔ جب کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے سوروں کی تعداد ایک سو چودہ ہے اور ان دو سوروں (حقد اور خلع) کا قرآن مجید میں نام و نشان تک نہیں ہے۔ (1)

۳۔ بیبہ اللہ بن سلامہ اپنی کتاب "الناسخ والمنسوخ" میں انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں: "پیغمبر اکرم ﷺ کے زمانے میں ہم ایک ایسا سورہ پڑھتے تھے جو سورہ توبہ کے برابر تھا مجھے اس سورہ کی صرف ایک ہی آیت یاد ہے اور وہ یہ ہے:

"لَوَ اَنَّ اٰدَمَ وَاٰدِيَانَ مِنْ الذَّهَبِ لَا يَتَعٰوٰنُ اِلَيْهِمَا ثَالِثًا وَّلَوْ اَنَّ لَهٗ ثَالِثًا لَا يَتَعٰوٰنُ لِيٰهِيَ رَابِعًا وَّلَا يَمْلَأُ جَوْفَ اِبْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَ يَتُوْبُ اِلٰهٗ عَلٰى مَنْ تَابَ!"

جب کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس قسم کی آیت قرآن میں موجود نہیں ہے اور یہ جملے قرآنی بلاغت سے بھی مغایرت رکھتے

ہیں۔

۴۔ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در المنثور میں عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھا اور آیہ "رجم" بھی اس میں موجود تھی (۲)
لہذا شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے کچھ افراد نے قرآن میں تحریف کے بارے

.....

(۱) اتقان جلد ۱ ص ۶۷۔

(۲) تفسیر در المنثور جلد ۵ ص ۱۸۰ سورہ احزاب کی تفسیر کی ابتداء میں

میں ایسی ضعیف روایتوں کو نقل کیا ہے جنہیں مسلمانوں کی اکثریت نے خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی قبول نہیں کیا ہے۔
بلکہ قرآن کی آیتوں، عالم اسلام کی صحیح اور متواتر روایتوں، اجماع، ہزاروں اصحاب پیغمبرؐ کے نظریات اور دنیا کے
تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی تحریف، تبدیلی، کمی یا زیادتی نہ آج تک ہوئی
ہے اور نہ ہی رہتی دنیا تک ہوگی۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

سنتر ہواں سوال

صحابہ کرام کے بارے میں شیعوں کا کیا نظریہ ہے؟

جواب: شیعوں کے نزدیک پیغمبر خداؐ کو دیکھنے اور انکی مصاحبت سے شرفیاب ہونے والے افراد چند گروہوں میں تقسیم
ہوتے ہیں لیکن اس بات کی وضاحت سے قبل بہتر یہ ہے کہ لفظ "صحابی" کو واضح کر دیا جائے صحابی پیغمبرؐ کی مختلف
تعریفیں کی گئی ہیں یہاں ہم ان میں سے بعض تعریفوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں:
۱. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ: "صحابی" وہ ہے جو ایک یا دو سال تک پیغمبر خداؐ کی خدمت میں رہا ہو اور اس نے
آنحضرتؐ کی ہمرابی میں ایک یا دو جنگیں بھی لڑی ہوں۔ (۱)
۲. واعدی کہتے ہیں کہ: علماء کے نزدیک ہر وہ شخص رسولؐ کا صحابی شمار ہوتا ہے جس نے آنحضرتؐ کو دیکھا ہو اور
اسلام کی طرف مائل ہو اور اس نے دین اسلام کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کے بعد اسے قبول کر لیا ہو اگرچہ وہ
گھنٹہ بھر ہی آنحضرتؐ کے ہمراہ رہا ہو۔ (۲)

.....

(۱) اسد الغابۃ جلد ۱ ص ۱۱، ۱۲ طبع مصر

(۲) گذشتہ حوالہ

۳. محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ: مسلمانوں میں سے ہر وہ شخص جو آنحضرتؐ کی مصاحبت میں رہا ہو یا اس نے
آپؐ کو دیکھا ہو وہ آنحضرتؐ کے اصحاب میں شمار ہوگا۔ (۱)
۴. احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ: ہر وہ شخص جو ایک ماہ یا ایک دن یا چند گھنٹیاں پیغمبر اکرمؐ کے ہمراہ رہا ہو یا اس نے
آنحضرتؐ کو دیکھا ہو وہ ان کے اصحاب میں شمار ہوگا۔ (۲)
علمائے اہل سنت کے نزدیک "عدالت صحابہ" ایک متفق علیہ مسئلہ ہے اس کے مطابق جس شخص کو بھی پیغمبر اکرمؐ کی

مصاحبت حاصل ہوئی ہو وہ عادل ہے! (۳)

یہاں پر ضروری ہے کہ اس نظریہ کا قرآنی آیات کی روشنی میں تجزیہ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں وحی الہی کے سرچشمہ سے حاصل شدہ شیعوں کے نکتہ نظر کا بھی تذکرہ کیا جائے۔

تاریخ نے بارہ ہزار سے زیادہ افراد کے نام اصحاب پیغمبرؐ کی فہرست میں درج کئے ہیں جنکے درمیان مختلف قسم کے چہرے دکھائی پڑتے ہیں بے شک آنحضرتؐ کی مصاحبت ایک بہت بڑا افتخار تھا جو صرف چند افراد ہی کو نصیب ہوا اور امت اسلامی نے ہمیشہ ایسے افراد کو ادب و احترام کی نگاہوں سے دیکھا ہے کیونکہ انہی بزرگان نے سے نقل کرتے ہوئے۔

.....

(۱) اسدالغابۃ جلد ۱ ص ۱۱ ، ۱۲

(۲) گذشتہ حوالہ

(۳) الاستعیاب فی اسماء الاصحاب جلد ۱ ص ۲ "الاصابة" کے حاشیے میں اسدالغابۃ جلد ۱ صفحہ ۳ میں ابن اثیر

آئین اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے پہلے اسلام کی عزت اور شوکت کے پرچم کو لہرایا ہے۔

قرآن مجید نے بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے:

(لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ نَفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ وَلِيكَ عَظْمُ دَرَجَةٍ مِنَ الَّذِينَ نَفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا) (۱)

اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہوسکتا جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف بھی کر لینا چاہیئے کہ پیغمبر خداؐ کی مصاحبت کوئی ایسا کیمیائی نسخہ نہیں تھا جو انسانوں کی حقیقت کو بدل دیتا اور عمر کے آخری حصے تک ان کی زندگی کی ضمانت لیتا نیز انہیں ہمیشہ کے لئے عادلوں کی صف میں کھڑا کر دیتا۔

اس مسئلے کی وضاحت کے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان قابل اعتماد کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرینا اور اس سلسلے میں اس سے مدد حاصل کریں۔

صحابی قرآن مجید کی نگاہ میں

قرآن کے نکتہ نظر سے نبی اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہونے اور آپؐ کی مصاحبت

.....

(۱) سورہ حدید آیت: ۱۰

اختیار کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم

وہ ایسے اصحاب ہیں جن کی قرآن مجید کی آیتیں مدح و ستائش کرتی ہیں اور انہیں شوکت اسلام کا بانی قرار دیتی ہیں یہاں پر ہم صحابہ کرام کے ایسے گروہ سے متعلق چند آیتوں کا ذکر کرتے ہیں:

۱ دوسروں پر سبقت لے جانے والے

(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِحَسَنِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِمَا بَدَأَ ذَلِكَ الْفُورُ الْعَظِيمِ) (۱)

اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کا اتباع کیا ہے ان سب سے خدا راضی ہو گیا ہے اور یہ سب خدا سے راضی ہیں اور خدا نے ان کے لئے وہ باغات مہیا کئے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

.....

(۱) سورہ توبہ آیت: ۱۰۰

۲. درخت کے نیچے بیعت کرنے والے
(لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا) (۱)
یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے پھر اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو ان پر سکون نازل کر دیا اور انہیں اس کے عوض قریبی فتح عنایت کر دی۔

۳. مہاجرین
(لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولَئِكَ يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ وَالصَّادِقُونَ) (۲)
یہ مال ان مہاجر فقراء کے لئے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے اموال سے انہیں دور کر دیا گیا اور وہ صرف خدا کے فضل اور اس کی مرضی کے طلب گار ہیں اور خدا اور رسول کی مدد کرنے والے ہیں یہی لوگ دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔

(۱) سورہ فتح آیت: ۱۸

(۲) سورہ حشر آیت: ۸

۴. اصحاب فتح
(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاءَ فِيْ جُودِهِمْ مِنْ تَرِ السُّجُودِ) (۱)
محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لئے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں تم ان کو دیکھو گے کہ بارگاہ احدیت میں سر خم کئے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلب گار ہیں کثرت سجد کی وجہ سے ان کے چہروں پر سجدہ کے نشانات پائے جاتے ہیں۔

(۱) سورہ فتح آیت: ۲۹

دوسری قسم
بزم رسالت میں کچھ افراد ایسے بھی تھے جنہیں پیغمبر خدا کی مصاحبت تو حاصل ہوئی تھی مگر وہ یا تو منافق تھے یا پھر ان کے دل میں مرض تھا قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کے لئے ایسے افراد کی حقیقت کو نمایاں کیا ہے اور آنحضرت کو یہ تاکید کی ہے کہ ان سے محتاط رہیں یہاں پر ہم اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیتوں کے چند نمونے پیش کرتے ہیں:

۱. معروف منافقین
(إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ نَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ نَكَرَ لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (۱)
اے پیغمبر! یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ بھی جانتا

ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔

۲۔ غیر معروف منافقین

(وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْغُرَابِ مُنَافِقُونَ وَمَنْ بَلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ) (۲)

.....

(۱) سورہ منافقون آیت: ۱

(۲) سورہ توبہ آیت: ۱۰۱

اور تم لوگوں کے گرد، دیہاتیوں میں بھی منافقین ہیں اور اہل مدینہ میں تو وہ بھی ہیں جو نفاق میں ماہر اور سرکش ہیں تم لوگ ان کو نہیں جانتے ہو لیکن ہم خوب جانتے ہیں۔

۳۔ دل کے کھوٹے

(وَذِيْقُوا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا غُرُورًا) (۱)

اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا یہ کہہ رہے تھے کہ خدا اور رسول نے ہم سے صرف دھوکا دینے والا وعدہ کیا ہے۔

۴۔ گناہ گار

(وَأَخْرَجُوا عَتْرُوفًا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (۲)

اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیک اور بد اعمال مخلوط کر دیئے ہیں عنقریب خدا

.....

(۱) سورہ احزاب آیت: ۱۲

(۲) سورہ توبہ آیت: ۱۰۲

ان کی توبہ قبول کر لے گا وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

قرآن مجید کی آیات کے علاوہ پیغمبر اکرمؐ سے بھی بعض صحابہ کی مذمت میں بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں ان میں سے ہم صرف دو روایتوں کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں :

۱۔ ابو حازم، سہل بن سعد سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خداؐ نے ارشاد فرمایا :

"أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب و من شرب لم يظمأ أبداً و ليردن على أقوام أعرفهم و يعرفون ثم يحال بين و بينهم." میں تم سب کو حوض کی طرف بھیجوں گا جو شخص بھی اس حوض تک پہنچے گا وہ اس میں سے ضرور پئے گا اور جو بھی اس سے پئے گا پھر وہ تابد پیاس محسوس نہیں کرے گا پھر ایک گروہ میرے پاس آئے گا جسے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے اس کے بعد ان لوگوں کو مجھ سے جدا کر دیا جائے گا ۔"

ابو حازم کا بیان ہے کہ جس وقت میں نے نعمان ابن ابی عیاش کے سامنے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے مجھ سے کہا: کیا تم نے یہ حدیث سہل سے اسی طرح سنی ہے؟ میں نے کہا ہاں اس وقت نعمان بن ابی عیاش نے کہا کہ ابوسعید خدری نے بھی اس حدیث کو ان کلمات کے اضافے کے ساتھ پیغمبر اکرمؐ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ فرماتے ہیں :

"إنهم من فيقال: نك لاتدر ما أحدثوا بعدك فأقول سحفاً سحفاً لمن بدل بعد" (۱)

یہ افراد مجھ سے بینپس کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام انجام دیئے ہیں! پس میں کہوں گا ایسے لوگوں سے خدا کی رحمت دور ہو جائے جنہوں نے میرے بعد (احکام دین میں) تبدیلی کی۔

پیغمبر اسلامؐ کی اس حدیث میں ان دو جملوں "جنہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں گا اور وہ سب بھی مجھے پہچانتے ہوں گے" اور "میرے بعد تبدیلی کی" سے صاف واضح ہے کہ آنحضرتؐ کی مراد آپکے وہ اصحاب ہیں جو کچھ مدت آنحضرتؐ کے ہمراہ رہے ہیں (اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے بھی نقل کیا ہے)

۲۔ بخاری اور مسلم، پیغمبر خداؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے:

"يرد على يوم القيامة رط من أصحاب أو قال من أمت فيحطون عن الحوض فأقول يارب أصحاب فيقول إنهم لا علم لك بما أحدثوا

بعدك أنهم ارتدوا على أديارهم القهقري. " (۲)

.....

(۱) جامع الاصول (ابن اثیر) جلد ۱۱ کتاب الحوض فی ورود الناس علیہ ص ۱۲۰ حدیث نمبر ۷۹۷۲.
(۲) جامع الاصول جلد ۱۱ ص ۱۲۰ حدیث ۷۹۷۳

قیامت کے دن میرے اصحاب میں سے یا فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ میرے پاس آئے گا پس ان کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا اس وقت میں کہوں گا اے میرے پروردگار! یہ میرے اصحاب ہیں تو خدا فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے کام انجام دئیے ہیں شک یہ لوگ اپنی سابقہ حالت (زمانہ جاہلیت) پر لوٹ کر مرتد ہو گئے تھے۔

نتیجہ: قرآنی آیات اور سنت پیغمبرؐ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصحاب اور وہ افراد جنہیں آنحضرتؐ کی مصاحبت کا شرف حاصل ہوا ہے وہ سب ایک ہی درجہ کے نہیں تھے ان میں بعض ایسے بلند مقام افراد تھے جن کی خدمات نے اسلام کے پھیلانے میں انتہائی مؤثر کردار ادا کیا ہے لیکن بعض ایسے بھی تھے جو ابتداء ہی سے منافق، دل کے مریض اور گمراہ تھے۔ (۱)

اسی بیان کے ساتھ صحابہؓ پیغمبرؐ کے بارے میں شیعوں کا نظریہ (جو درحقیقت قرآن اور سنت کا نظریہ ہے) واضح ہو جاتا ہے۔

.....

(۱) اس بارے میں مزید وضاحت کے لئے سورہ منافقون ملاحظہ کریں۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

اٹھارہواں سوال

متعہ کیا ہے اور شیعہ اسے کیوں حلال سمجھتے ہیں؟

جواب: نکاح، مرد اور عورت کے درمیان ایک ارتباط کا نام ہے۔ بعض اوقات یہ ارتباط دائمی ہوتا ہے اور عقد پڑھتے وقت اس میں زمانے کی کوئی قید ذکر نہیں کی جاتی لیکن بسا اوقات یہی ارتباط ایک معین مدت کے لئے انجام پاتا ہے یہ دونوں ہی عقد شرعی نکاح کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان صرف "دائمی" اور "موقت" کا فرق ہوتا ہے لیکن یہ دونوں باقی خصوصیات میں مشترک ہیں اب ہم یہاں نکاح "متعہ" کی ان شرائط کا ذکر کریں گے جو نکاح "دائم" کی طرح معتبر ہیں:

۱. مرد اور عورت کے درمیان آپس میں کوئی نسبی و سببی اور کوئی شرعی مانع نہ ہو ورنہ ان کا عقد باطل ہے۔

۲. طرفین کی رضامندی سے معین کئے جانے والے مہر کا تذکرہ عقد میں ہونا چاہئے۔

۳. نکاح کی مدت معین ہونی چاہئے۔

۴. شرعی طریقے سے عقد پڑھا جانا چاہئے۔

۵. ان دونوں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ شرعی طور پر ان دونوں کی شمار ہوگی اور جس طرح نکاح دائم سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام شناختی کارڈ وغیرہ میں درج ہوتا ہے اسی طرح عقد متعہ سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام بھی شناختی کارڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔

۶. اس اولاد کا نان و نفقہ والد کے ذمے ہے اور یہ اولاد ماں اور باپ دونوں سے میراث پائے گی۔
 ۷. جس وقت عقد متعہ کی مدت ختم ہو جائے تو اگر عورت یائسہ نہ ہو تو وہ شرعی طور پر عدہ گزارے گی اور اگر اثنا عشرت میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے تو وضع حمل سے پہلے کسی بھی قسم کا عقد نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نکاح دائم کے باقی احکام بھی متعہ میں جاری ہوں گے ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ عقد متعہ چند ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے حلال کیا گیا ہے لہذا اس عورت کا نان و نفقہ مرد کے ذمے نہیں ہے اور اگر عقد متعہ پڑھتے وقت عورت کی طرف سے میراث لینے کی شرط نہ لگائی جائی تو یہ عورت شوہر کی میراث نہیں پائے گی واضح ہے کہ ان دو فرقوں سے نکاح کی حقیقت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔

ہم سب اس بات کے معتقد ہیں کہ اسلام ایک دائمی شریعت اور آخری شریعت ہے لہذا اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ انسانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اب یہاں پر اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ایک ایسا جوان شخص جو کہ تعلیم حاصل کرنے کیلئے کسی دوسرے شہر یا ملک میں زندگی بسر کر رہا ہو اور محدود وسائل کی وجہ سے دائمی عقد نہ کر سکتا ہو اسکے سامنے صرف تین راستے ہیں اور ان میں سے وہ کسی ایک کا انتخاب کرے گا۔
 الف: کنوارہ ہی رہے۔

ب: گناہ اور آلودگی کی دلدل میں دھنس جائے۔
 ج: گذشتہ شرائط کے ساتھ ایک ایسی عورت کے ساتھ ایک محدود اور معین مدت کے لئے شادی کر لے جس سے شرعاً عقد جائز ہو۔ پہلی صورت کے بارے میں یہ کہنا چاہئے اس میں اکثر افراد شکست کھاتے ہیں اگرچہ بعض ایسے انگشت شمار اشخاص ضرور مل جائیں گے جو اپنی خواہشات کو دبا کر صبر کا دامن تھام لیتے ہیں لیکن اس روش پر عمل پیرا ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔

دوسرے راستے کو اختیار کرنے والوں کا انجام تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اسلام کی نگاہ میں بھی یہ ایک حرام عمل ہے۔ اس فعل کو فطری تقاضے کا نام دے کر صحیح قرار دینا ایک غلط فکر ہے۔
 اب صرف تیسرا راستہ بچتا ہے جسے اسلام نے پیش کیا ہے اور یہی مناسب اور صحیح بھی ہے پیغمبر خداؐ کے زمانے میں بھی اس پر عمل ہوتا رہا ہے اس مسئلے میں اختلاف آنحضرتؐ کے بعد پیدا ہوا ہے۔
 یہاں پر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ وہ لوگ جو عقد متعہ سے خوف و ہراس رکھتے ہیں انہیں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ تمام اسلامی مجتہدین اور محققین نے اس متعہ کو معنوی اعتبار سے نکاح دائم میں بھی اس طرح میں قبول کیا ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں عقد دائم تو کریں لیکن ان کی نیت یہ ہو کہ ایک سال کے بعد یا اس سے کمتر یا بیشتر مدت میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو وہ طلاق کے ذریعہ جدا ہو سکتے ہیں۔

واضح ہے کہ اس قسم کی شادی ظاہری اعتبار سے تو دائمی ہے لیکن حقیقت میں معین وقت کے لئے ہے اور اس قسم کے دائمی نکاح اور عقد متعہ کے درمیان صرف یہ فرق ہے کہ عقد متعہ ظاہری اور باطنی ہر دو اعتبار سے معین وقت کے لئے ہوتا ہے جبکہ اس قسم کا دائمی نکاح ظاہری طور پر تو ہمیشہ کے لئے ہے لیکن باطنی طور پر ایک محدود وقت کے لئے انجام پایا ہے۔

وہ لوگ جو اس قسم کے دائمی نکاح کو جائز سمجھتے ہیں جیسا کہ اس کو تمام مسلمان فقہاء جائز قرار دیتے ہیں تو وہ عقد متعہ کو حلال سمجھنے میں کیوں خوف و ہراس محسوس کرتے ہیں یہاں تک ہم نے عقد متعہ کی حقیقت سے آشنائی حاصل کی اب ہم دلیلوں کی روشنی میں اس کے جواز کو ثابت کریں گے اس سلسلے میں ہم دو مرحلوں میں بحث کریں گے:

۱. صدر اسلام میں عقد متعہ کا شرعاً جائز ہونا۔

۲. رسول خداؐ کے زمانے میں اس حکم شرعی کا منسوخ نہ ہونا۔

عقد متعہ کا جواز اس آیه شریفہ سے ثابت ہوتا ہے:

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ جُورًا قَرِيبًا) (۱)

پس جب بھی تم ان عورتوں سے متعہ کرو تو انکی اجرت انہیں بطور فریضہ دے دو۔

اس آیه شریفہ کے الفاظ اچھی طرح اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ آیه کریمہ نکاح موقت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ:

اول: اس آیت میں استمتاع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے ظاہری معنی نکاح موقت ہیں اور اگر اس سے مراد دائمی نکاح ہوتا تو اس کیلئے قرینہ لایا جاتا۔

دوم: اس آیت میں کلمہ "اجورہن" (ان کی اجرت) ہے اور یہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس آیت سے مراد عقد متعہ ہے کیونکہ نکاح دائم میں لفظ "مہر" اور لفظ "صداق" استعمال کئے جاتے ہیں۔

سوم: شیعہ اور سنی مفسرین اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ آیہ شریفہ عقد متعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر درالمنثور میں ابن جریر اور سدی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت عقد متعہ کے بارے میں ہے (۲) اسی طرح ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی تفسیر میں سدی اور مجاہد اور ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت نکاح موقت کے بارے میں ہے (۳)

.....

- (۱) سورہ نساء آیت: ۲۴.
 (۲) تفسیر درالمنثور جلد ۲ ص ۱۴۰ سورہ نساء کی ۲۴ ویں آیت کے ذیل میں.
 (۳) جامع البیان فی تفسیر القرآن جزء ۵ ص ۹.

چہارم: صاحبان صحاح و مسانید اور احادیث کی کتابوں کے مولفین نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے بعنوان مثال مسلم بن حجاج نے اپنی کتاب صحیح میں جابر بن عبد اللہ اور سلمہ بن اکوع سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: خرج علينا مناد رسول الله ﷺ قال: ن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا يعن متعة النساء. (۱) پیغمبر اکرم ﷺ کے منادی نے ہمارے پاس آکر کہا کہ رسول خدا ﷺ نے تم لوگوں کو استمتاع کی اجازت دی ہے یعنی عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ عقد متعہ سے متعلق صحاح اور مسانید میں جو روایات آئی ہیں ان سب کو اس کتاب میں بیان نہیں کیا جاسکتا البتہ ان سے یہ ثابت ہوجاتا ہے کہ عالم اسلام کے تمام علماء اور مفسرین نے آغاز اسلام میں اور پیغمبر اکرم ﷺ کے زمانے میں عقد متعہ کے جائز ہونے کو تسلیم کیا ہے: (۲)

.....

- (۱) صحیح مسلم جز ۴ ص ۱۳۰ طبع مصر
 (۲) نمونے کے طور پر ہم ان منابع میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں :
 صحیح بخاری باب تمتع ۲
 مسند احمد جلد ۴ ص ۳۶ اور جلد ۳ ص ۳۵۶
 الموطن مالک جلد ۲ ص ۳۰
 سنن بیہقی جلد ۷ ص ۳۰۶
 تفسیر طبری جلد ۵ ص ۹
 نہایہ ابن اثیر جلد ۳ ص ۲۴۹
 تفسیر رازی جلد ۳ ص ۲۰۱
 تاریخ ابن خلکان جلد ۱ ص ۳۵۹
 احکام القرآن جصاص جلد ۲ ص ۱۷۸
 محاضرات راغب جلد ۲ ص ۹۴
 الجامع الکبیر سیوطی جلد ۸ ص ۲۹۳
 فتح الباری ابن حجر جلد ۹ ص ۱۴۱

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس آیت کا حکم منسوخ ہوا ہے یا نہیں؟ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو پیغمبر خدا ﷺ کے زمانے میں متعہ کے شرعاً جائز ہونے کے بارے میں تردید کرے بحث اس بارے میں ہے کہ یہ حکم آنحضرت ﷺ کے زمانے میں باقی تھا یا منسوخ ہو گیا تھا؟ تاریخ اسلام اور روایات کے مطابق خلیفہ دوم کے زمانے تک مسلمان اس حکم الہی پر عمل کرتے تھے اور سب سے پہلے خلیفہ دوم نے چند مصلحتوں کی بنا پر اس حکم پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو روکا تھا۔ مسلم بن حجاج اپنی کتاب صحیح میں نقل کرتے ہیں کہ جب ابن عباس اور ابن زبیر کے درمیان متعہ النساء اور متعہ حج کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا تو جابر ابن عبد اللہ نے کہا :
 "فعلنا مع رسول الله ﷺ ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما" (۱)

.....

- (۱) سنن بیہقی جلد ۷ ص ۲۰۶ اور صحیح مسلم جلد ۱ ص ۳۹۵

ہم رسول خدا ﷺ کے ہمراہ متعہ النساء اور متعہ حج کو انجام دیتے تھے اور پھر عمر نے ہمیں دونوں کاموں سے روک دیا

اس کے بعد سے ہم نے ان دونوں کو انجام نہیں دیا ہے۔
جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں عبدالرزاق اور ابو داؤد اور ابن جریر سے اور ان سب نے "حکم" سے روایت کی ہے کہ جب حکم سے آیہ متعہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا یہ آیت منسوخ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں منسوخ نہیں ہوئی ہے اور حضرت علی - نے فرمایا ہے:

"لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى لأشق" (۱)

اگر عمر نے متعہ سے منع نہ کیا ہوتا تو سوائے بدبخت کے کوئی زنا نہ کرتا۔

نیز علی بن محمد قوشچی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے منبر پر بیٹھ کر کہا:

"أيها الناس ثلاث كن علي عهد رسول الله وأنا

أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهمتعة

النساء و متعة الحج و ح علي خير العمل" (۲)

اے لوگو! تین چیزیں رسول خدا کے زمانہ میں تھیں لیکن میں ان سے منع کرتا ہوں اور انہیں حرام قرار دیتا ہوں اور جو کوئی بھی

.....

(۱) تفسیر در المنثور جلد ۲ ص ۱۴۰ سورہ نساء کی چوبیسویں آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

(۲) شرح تجرید قوشچی بحث امامت ص ۴۸۴۔

انہیں انجام دے گا، میں اسے سزا دوں گا وہ تین چیزیں یہ ہیں: متعہ النساء اور متعہ الحج اور ح علی خیر العمل۔
عقد متعہ کے جائز ہونے کے بارے میں اس قدر روایات ہیں کہ ان کو ذکر کرنا اس کتاب کی گنجائش سے باہر ہے۔ زیادہ معلومات کے لئے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ فرمائیں (۱)

اب یہ مان لینا چاہیے کہ متعہ نکاح ہی کی ایک قسم ہے کیونکہ نکاح کی دو قسمیں ہیں: دائمی اور موقت اور وہ عورت جس کے ساتھ نکاح موقت کیا جائے وہ اس مرد کی

.....

(۱) مسند احمد جلد ۳ ص ۳۵۶

البيان والتبيين جلد ۲ صفحہ ۲۲۳

احکام القرآن جصاص جلد ۱ ص ۳۴۲

تفسیر قرطبی جلد ۲ ص ۳۷۰

المبسوط سرخسی حنفی کتاب الحج باب القرآن

زاد المعاد ابن قیم جلد ۱ ص ۴۴۴

کنز العمال جلد ۸ ص ۲۹۳

مسند ابی داؤد طیالسی ص ۲۴۷

تاریخ طبری جلد ۵ ص ۳۲

المستبین طبری

تفسیر رازی جلد ۳ ص ۲۰۰ سے ۲۰۲ تک

تفسیر ابو حیان جلد ۳ ص ۲۱۸

زوجہ شمار ہوتی ہے اور وہ مرد بھی اس عورت کا شوہر کہلاتا ہے اس اعتبار سے فطری طور پر اس قسم کی شادی بھی نکاح سے متعلق آیتوں کے ذیل میں آئے گی مثال کے طور پر قرآن مجید کی یہ آیت ملاحظہ ہو:

(وَالَّذِينَ بُمْلُفْرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ لِأَعْلَى زَوْجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ يَمَانُيْهِمْ) (۱)

اور مومنین اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنیوالے ہیں علاوہ اپنی بیویوں اور اپنی ملکیت کی کنیزوں کے۔

اب تمام گزشتہ شرائط کے ساتھ جس عورت سے متعہ کیا جائے وہ "لأعلى زوجها" (سوائے اپنی بیویوں کے) کا ایک

مصدق قرار پائے گی یعنی یہ عورت

اس مرد کی زوجہ کہلائے گی اور لفظ "زَوْجِهِمْ" اس کو بھی اپنے اندر شامل کرے گا۔ سورہ مومنون کی یہ آیت جنسی عمل

کو فقط دو قسم کی عورتوں یعنی بیویوں اور کنیزوں کے ساتھ جائز قرار دیتی ہے اور وہ عورت جس سے متعہ کیا گیا ہو

وہ پہلی قسم کی عورتوں (یعنی اپنی بیویوں) میں شامل ہے۔

یہاں پر بعض لوگوں کا یہ کلام تعجب خیز ہے کہ سورہ مومنون کی یہ آیت سورہ نساء کی چوبیسویں آیت کیلئے ناسخ ہے جب کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ناسخ آیت کو منسوخ ہونے والی آیت کے بعد نازل ہونا چاہیے اور یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے سورہ مومنون جسکی

.....

(۱) سورہ مومنون آیت : ۵ اور ۶

آیت کو ناسخ تصور کیا جا رہا ہے وہ مکی ہے (یعنی یہ سورہ آنحضرتؐ کی ہجرت سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے) اور سورہ نساء جس میں آیہ متعہ ہے مدنی ہے (یعنی یہ سورہ مدینہ منورہ میں آنحضرتؐ کی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے) اب سوال یہ ہے کہ مکی سورہ میں آنے والی آیت مدنی سورہ میں آنے والی آیت کیلئے کیسے ناسخ بن سکتی ہے؟ اسی طرح رسول خداؐ کے زمانے میں آیہ متعہ کے منسوخ نہ ہونے کی ایک اور واضح دلیل وہ کثیر روایات ہیں جن کے مطابق یہ آیت آنحضرتؐ کے زمانے میں منسوخ نہیں ہوئی تھی ایسی روایتوں میں سے ایک روایت تو وہی ہے جسے جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر درالمنثور میں ذکر کیا ہے اور جس کی وضاحت گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے (۱) آخر میں ہم اس نکتے کا ذکر کر دیں کہ وہ ائمہ معصومین % جو حدیث ثقلین کے مطابق امت کے بادی اور قرآن کے ہم پلہ ہیں انہوں نے عقد متعہ کے شرعاً جائز

ہونے اور اس کے منسوخ نہ کئے جانے کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ (۲)

ساتھ ہی ساتھ اسلام چونکہ ہر زمانے میں انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا اس نے بھی چند ذکر شدہ شرائط کی رعایت کے ساتھ اس قسم کے نکاح کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ آج کی اس گمراہ کن دنیا میں جوانوں کو تباہی کے دلدل سے نجات دینے کے لئے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے متعہ۔

.....

(۱) تفسیر درالمنثور جلد ۲ ص ۱۴۰ اور ص ۱۴۱ سورہ نساء کی چوبیسویں آیت کی تفسیر کے ذیل میں،

(۲) وسائل الشیعہ جلد ۱ کتاب النکاح ابواب متعہ باب اول ص ۴۳۶۔

انیسواں سوال

شیعہ خاک پر کیوں سجدہ کرتے ہیں؟

جواب: بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ خاک یا شہیدوں کی تربت پر سجدہ کرنا ان کی عبادت کرنے کے برابر ہے اور یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اس سوال کے جواب میں اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ ان دو جملوں "السجود لله" و "السجود علی الأرض" میں بڑا فرق ہے اور اس سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا ان دو جملوں کے درمیان موجود فرق کو نہیں سمجھ پایا ہے۔

السجود لله کے معنی یہ ہیں کہ سجدہ خدا کے لئے ہوتا ہے اور السجود علی الأرض یعنی سجدہ زمین پر ہوتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر ہم زمین پر خدائے عظیم کا سجدہ بجا لاتے ہیں اصولی طور پر دنیا کے سارے مسلمان کسی نہ کسی چیز کے اوپر سجدہ کرتے ہیں جبکہ وہ خدا کا سجدہ کرتے ہیں مسجد الحرام میں بھی لوگ پتھروں پر سجدہ کرتے ہیں جبکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کا سجدہ کر رہے ہیں۔

اس بیان کے ساتھ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خاک یا پتوں یا کسی اور چیز پر سجدہ کرنا ان چیزوں کی عبادت نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ خدائے عظیم کے سامنے خود کو خاک سمجھتے ہوئے اس کے لئے سجدہ کرنا مقصود ہوتا ہے اور اسی طرح یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خاک شفا پر سجدہ کرنا خاک شفا کو سجدہ کرنا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

(وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (۱)

اللہ ہی کو زمین و آسمان میں رہنے والے سب سجدہ کرتے ہیں۔

نیز پیغمبرؐ اسلام فرماتے ہیں:

"جُعِلَتْ لِ الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهْرًا" (۲)

زمین میرے لئے جانے سجدہ اور پاک کرنے والی قرار دی گئی ہے۔

لہذا "خدا کے لئے سجدہ" اور "زمین یا خاک شفا پر سجدہ" کے درمیان آپس میں پوری طرح سازگاری ہے کیونکہ خاک

اور پتوں پر سجدہ کرنا خدائے عظیم کے سامنے انتہائی درجہ کے خضوع کی علامت ہے۔ اس بارے میں شیعوں کے

نظریے کی وضاحت کے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم امام صادق - کے اس گہر بار ارشاد کو پیش کریں:

"عن هشام ابن الحكم قال قلت لأب عبد الله - اخبرن عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز

.....

(۱) سورہ رعد آیت: ۱۵

(۲) صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ ص ۹۱

عليه؟ قال : السجود لايجوز لأعلى الأرض أو ما أنبتت لأرض الا مأكلا أو لبس فقلت له: جعلت فداك ما العلة ف ذلك؟ قال: لأن

السجود هو الخضوع لله عزوجل فلا ينبغ أن يكون على ما يؤكل و يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد ف

سجوده ف عبادة الله عزوجل فلا ينبغ أن يضع جبهته ف سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها و السجود على

الأرض أفضل لأنه أبلغ ف التواضع و الخضوع لله عزوجل" (۱)

ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق - کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ رہنمائی فرمائیں کہ کن چیزوں پر سجدہ

کرنا صحیح ہے اور کن چیزوں پر صحیح نہیں ہے؟ امام - نے فرمایا سجدہ صرف زمین اور اس سے اگے والی اشیاء پر

ہوسکتا ہے لیکن کھانے اور پہننے والی اشیاء پر سجدہ نہیں کیا جاسکتا میں نے عرض کی : میں آپ پر قربان ہوجاؤں اس کا

کیا سبب ہے؟ امام نے فرمایا: سجدہ خداوند عزوجل کے لئے خضوع کا نام ہے پس یہ صحیح نہیں ہے کہ

.....

(۱) بحار الانوار جلد ۸۵ ص ۱۴۷ "علل الشرائع" سے نقل کرتے ہوئے۔

کھانے اور پہننے والی چیزوں پر سجدہ کیا جائے کیونکہ دنیا پرست افراد خوراک اور لباس کے بندے ہیں جبکہ انسان

سجدے کی حالت میں اللہ عزوجل کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ پس یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنی پیشانی اس چیز پر رکھے

جس کو دنیا پرست اپنا معبود سمجھتے ہیں اور وہ دنیا کے دھوکے میں آگئے ہیناور زمین پر سجدہ کرنا افضل ہے کیونکہ اس

سے خدا کی بارگاہ میں زیادہ خضوع کا اظہار ہوتا ہے۔

امام کا یہ کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خاک پر سجدہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ کام خدا کی بارگاہ میں تواضع

کو ظاہر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔

یہاں پر ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے کہ شیعہ صرف خاک اور بعض پتوں ہی پر کیوں سجدہ کرتے ہیں اور باقی چیزوں

پر سجدہ کیوں نہیں کرتے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح یہ ضروری ہے کہ ہر عبادت کا حکم شریعت کی طرف سے ہم تک پہنچے اسی

طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے تمام شرائط، اجزاء، اور اس کا طریقہ بھی شریعت کو بیان کرنے والی شخصیت

یعنی پیغمبر اکرمؐ کے اقوال اور کردار کے ذریعے ہم تک پہنچے کیونکہ قرآن کے حکم کے مطابق تمام مسلمانوں کے لئے

اسوہ اور نمونہ عمل فقط پیغمبر گرامیؐ کی ذات ہے۔

اب ہم چند ایسی احادیث ذکر کرتے ہیں جو اس بارے میں پیغمبر اسلامؐ کی سیرت کو بیان کرتی ہیں یہ حدیثیں اس بات کو

بیان کرتی ہیں کہ آنحضرتؐ خاک پر اور زمین سے اگے والی بعض چیزوں جیسے چٹائی وغیرہ پر سجدہ فرماتے تھے اور

آج شیعہ بھی اسی چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں بہت سے مسلمان محدثین نے اپنی صحاح و مسانید میں آنحضرتؐ سے نقل کیا ہے

کہ آپؐ نے زمین کو اپنے لئے سجدہ کے عنوان سے پہنچنویا تھا آنحضرتؐ فرماتے ہیں:

"جُعِلَتْ لِ الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَ طَهْرًا" (۱)

زمین میرے لئے جانے سجدہ اور پاک کرنے والی قرار دی گئی ہے۔

(۱) اس حدیث میں لفظ "جعلت" قانون گزاری کے معنی میں ہے اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ یہ مسئلہ دین اسلام کی پیروی کرنے والوں کے لئے ایک حکم الہی ہے اس حدیث سے خاک، پتھر اور ہر اس چیز پر سجدے کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس کو زمین کہا جاسکے۔

(۲) بعض دوسری روایات اس نکتے پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانیوں کو خاک پر رکھا کریں جیسا کہ

.....

(۱) سنن بیہقی جلد ۱ ص ۲۱۲ (باب التیمم بالصعيد الطيب) صحیح بخاری جلد ۱ کتاب الصلوة ص ۹۱ اقتضائ الصراط المستقیم (ابن تیمیہ) ص ۳۳۲۔

زوجہ پیغمبرؐ ام سلمہ آنحضرتؐ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا:

"تَرَبُّ وَجْهَكَ لِلَّهِ" (۱)

اللہ کے لئے اپنے چہرے کو خاک پر رکھو۔

اس حدیث میں "ترب" کے لفظ سے دو نکتے سمجھ میں آتے ہیں ایک یہ ہے کہ انسان کو سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی کو خاک پر رکھنا چاہیے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ "ترب" صیغہ امر ہے لہذا خاک پر سجدہ کرنا واجب ہے۔

(۳) خود آنحضرتؐ کا عمل بھی خاک پر سجدے کے صحیح ہونے کا بہترین گواہ ہے وائل بن حجر کہتے ہیں:

"رَأَيْتُ النَّبَّ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ" (۲)

میں نے پیغمبرؐ کو دیکھا ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے تھے۔

انس بن مالک اور ابن عباس اور آپؐ کی ازواج جیسے عائشہ اور ام سلمہ اور بہت سے محدثین نے اس طرح روایت کی

ہے:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصِلُ عَلَى الْخَمْرَةِ" (۳)

.....

(۱) کنز العمال جلد ۷ ص ۶۵ ۴۶۵ حدیث نمبر ۱۹۸۰۹ کتاب الصلوة السجود و مايتعلق به۔

(۲) احکام القرآن (جصاص حنفی جلد ۳ ص ۲۰۹ باب السجود علی الوجه)

(۳) سنن بیہقی جلد ۲ ص ۴۱ کتاب الصلوة علی الخمرہ۔

رسول خداؐ چٹائی پر نماز پڑھتے تھے (ایسی چٹائی جو کہ کھجور کی پتیوں سے تیار کی جاتی تھی)

پیغمبر اکرمؐ کے صحابی ابوسعید کہتے ہیں کہ:

"دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَصِلُ عَلَى حَصِيرٍ" (۱)

میں رسول خداؐ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ چٹائی پر نماز پڑھ رہے تھے۔

یہ بات شیعوں کے نظریے کے صحیح ہونے کی گواہی دیتی ہے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زمین سے اگنے والی ان اشیاء پر سجدہ صحیح ہے جو نہ تو کھائی جاتی ہوں اور نہ ہی پہنی جاتی ہوں۔

(۴) پیغمبر اسلامؐ کے اصحاب اور تابعین کی سیرت اور ان کے اقوال بھی اس بارے میں آنحضرت کی سنت کو بیان کرتے

ہیں: جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں:

"كَانَتْ أَصْلُ الظَّهْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ قَبِيضَةً مِنَ الحَصَاءِ لَتَبْرِدَ فِ كَفِّ أضعها لجنبهت أسجد عليها لشدة الحر" (۲)

.....

(۱) گذشتہ حوالہ۔

(۲) سنن بیہقی جلد ۱ ص ۳۹ کتاب الصلوة باب ماروی فی التعجيل بها فی شدة الحر۔

جب میں رسول اللہؐ کے ساتھ نماز ظہر پڑھتا تھا تو اپنی مٹھی میں سنگ ریزے اٹھا لیتا تھا تاکہ وہ میرے ہاتھ میں ٹھنڈے ہو

جائیں اور انہیں سجدہ کے وقت اپنی پیشانی کے نیچے رکھ سکوں کیونکہ گرمی بہت شدید تھی۔

اور پھر خود راوی نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ اگر اپنے کپڑوں پر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو یہ سنگریزوں کے اٹھانے

اور انہیں سنبھالنے سے آسان تھا .
ابن سعد (وفات ۲۰۹ ھ) اپنی کتاب "الطبقات الكبرى" میں یوں لکھتے ہیں:
"کان مسروق إذا خرج ببلنة يسجد عليها ف السفينة" (۱)
مسروق ابن اجدع جس وقت سفر کے لئے نکلتے تھے تو اپنے ساتھ ایک کچی اینٹ رکھ لیتے تھے تاکہ کشتی میں اس پر
سجدہ کر سکیں .

مسروق بن اجدع پیغمبرؐ کے تابعین اور ابن مسعود کے اصحاب میں سے تھے،
کتاب "الطبقات الكبرى" کے مؤلف ان کے بارے میں تحریر کرتے ہیں:
" وہ پیغمبر اکرمؐ کے بعد اہل کوفہ میں سے طبقہ اول کے لوگوں میں سے تھے اور انہوں نے ابوبکر ، عمر ، عثمان ، علی
اور عبداللہ بن مسعود سے روایتیں نقل کی ہیں ."
اس کلام سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مٹی کی سجدہ گاہ کا ہمراہ رکھنا برگز شرک یا

(۱) "الطبقات الكبرى" جلد ۶ ص ۷۹ طبع بیروت مسروق بن اجدع کے حالات کو بیان کرتے ہوئے.

بدعت نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے . (۱)

نافع کہتے ہیں :

" ان ابن عمر کان اذا سجد و عليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض" (۲)
عبد اللہ بن عمر سجدہ کرتے وقت اپنے عمامے کو اوپر کر لیا کرتے تھے تاکہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ سکیں.
رزین کہتے ہیں:

"كتب إلّ علي بن عبد الله بن عباس أن أبعث ل بلوح من أحجار المروة أسجد عليها" (۳)
علی بن عبداللہ بن عباس نے مجھے لکھا کہ مروہ پہاڑ کے ایک پتھر کی تختی میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس پر سجدہ
کر سکوں.
(۵) دوسری طرف سے مسلمان محدثین نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں جن کے مطابق پیغمبر اسلامؐ نے ایسے افراد کو ٹوکا ہے
جو سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اور زمین کے درمیان عمامے کے کپڑے کو حائل کر لیا کرتے تھے .

(۱) اس سلسلے میں مزید شواہد کے لئے علامہ امینی کی کتاب "سیرتنا" کی طرف مراجعہ فرمائیں.
(۲) سنن بیہقی جلد ۲ ص ۱۰۵ (مطبوعہ حیدرآباد دکن) کتاب الصلوة باب الكشف عن السجدة فی السجود
(۳) ازرقی ، اخبار مکہ جلد ۳ ص ۱۰۱

صالح سبائی کہتے ہیں :

"إن رسول الله رأى رجلاً يسجد على جنبه و قد اعتم على جبهته فحسر رسول الله على جبهته" (۱)
رسول خداؐ نے اپنے پاس ایک ایسے شخص کو سجدہ کرتے دیکھا جس نے اپنی پیشانی پر عمامہ باندھ رکھا تھا تو
آنحضرتؐ نے اس کے عمامے کو ہٹا دیا .
عیاض بن عبداللہ قرشی کہتے ہیں:
"رأى رسول الله رجلاً يسجد على كور عمامته فأوماً بيده ارفع عمامتك وأوماً الى جبهته" (۲)
رسول خداؐ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے عمامے کے ایک گوشے پر سجدہ کر رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا
کر پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اپنے عمامے کو اوپر اٹھاؤ.
ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول خداؐ کے زمانے میں زمین پر

(۱) سنن بیہقی جلد ۲ ص ۱۰۵

(۲) گذشتہ حوالہ.

سجدہ کرنا ایک لازمی امر تھا اور جب بھی کوئی شخص عمامے پر سجدہ کرتا تو آنحضرتؐ اسے اس کام سے روکتے تھے

۶) شیعوں کے ائمہ اطہار % جو کہ حدیث ثقلین کے مطابق، قرآن مجید سے کبھی جدا نہ ہونگے اور دوسری طرف وہ پیغمبر اکرمؐ کے اہل بیت ہینانہوں نے زمین پر سجدہ کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے امام صادق - فرماتے ہیں:

"السجود علی الأرض فریضة و علی الخمرۃ سنة" (۱)

زمین پر سجدہ کرنا حکم الہی ہے اور چٹائی پر سجدہ سنت پیغمبرؐ ہے۔

اور ایک مقام پر فرماتے ہیں :

"السجود لاجوز إلا علی الأرض إلا ما أكل أو لبس" (۲)

سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے سوائے زمین یا اس سے اگنے والی اشیاء پر لیکن کھائی اور پہننے والی اشیاء پر سجدہ نہیں ہو سکتا۔

نتیجہ: گزشتہ دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ نہ صرف اہل بیت % کی روایات بلکہ رسول خداؐ کی سنت اور آنحضرتؐ کے اصحاب اور تابعین کی سیرت اس

.....

(۱) وسائل الشیعة جلد ۳ ص ۵۹۳ کتاب الصلوۃ ابواب ما یسجد علیہ ، حدیث نمبر ۷۔

(۲) وسائل الشیعة جلد ۳ ص ۵۹۱ کتاب الصلوۃ ابواب ما یسجد علیہ ، حدیث نمبر ۱۔

بات کی گواہ ہیں کہ سجدہ صرف زمین یا اس سے اگنے والی اشیاء (سوائے کھانے اور پہنے جانے والی اشیاء کے) پر ہی کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ بقیہ دوسری چیزوں پر سجدے کے جائز ہونے کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے لہذا اس احتیاط پر عمل کرتے ہوئے نجات اور کامیابی کی راہ صرف یہ ہے کہ ان چیزوں پر سجدہ کیا جائے

جن پر سب کا اتفاق ہے آخر میں ہم اس نکتے کی یاد آوری ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ بحث صرف ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس قسم کے جزئی مسائل کے بارے میں مسلمان فقہاء کے درمیان بہت اختلافات ہیں لیکن اس قسم کے اختلافات کو کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہیے کیونکہ اس قسم کے فقہی اختلافات اہل سنت کے چار فرقوں کے درمیان فراوان ہیں مثال کے طور پر مالکی کہتے ہیں کہ ناک کو سجدہ گاہ پر رکھنا مستحب ہے جب کہ حنبلی کہتے ہیں کہ یہ عمل واجب ہے اور اسے چھوڑنے کی صورت میں سجدہ باطل ہوجائے گا۔ (۱)

.....

(۱) الفقه علی المذابب الاربعۃ جلد ۱ ص ۱۶۱ طبع مصر کتاب الصلوۃ ، بحث سجود۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

بیسواں سوال

شیعہ حضرات زیارت کرتے وقت حرم کے دروازوں اور دیواروں کو کیوں چومتے ہیں اور انہیں باعث برکت کیوں سمجھتے ہیں؟

جواب: اولیائے الہی سے منسوب اشیاء کو اپنے لئے باعث برکت سمجھنا کوئی ایسا جدید مسئلہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے درمیان آج پیدا ہوا ہو بلکہ اس کی بنیادیں رسول خدا اور ان کے صحابہ کے زمانے میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس عمل کو نبی اکرمؐ اور ان کے اصحاب ہی نے انجام نہیں دیا ہے بلکہ گزشتہ انبیاء بھی ایسا ہی کرتے تھے اب ہم آپ کے سامنے اس عمل کے جائز ہونے کے سلسلے میں قرآن مجید اور سنت پیغمبرؐ سے چند دلیلیں پیش کرتے ہیں:

۱. قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامنے خود کو پہنچوایا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا تو یہ فرمایا:

(اَذْهَبُوا بِقَمِيصِ بَدَأَ فَلَاقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ بَيْتِ بَصِيرًا) (۱)

میری یہ قمیص لے کر جاؤ اور میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو کہ انکی بصارت پلٹ آئے گی۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے:

(فَلَمَّا نَجَّى الْبُشَيْرُ لِقَاءَ عَلَىٰ وَجْهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا) (۲)

اور اس کے بعد جب بشارت دینے والے نے آکر قمیص کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ دوبارہ صاحب بصارت ہو گئے۔

قرآن مجید کی یہ آیتیں گواہی دے رہی ہیں کہ ایک نبی (جناب یعقوب) نے دوسرے نبی (جناب یوسف) کی قمیص کو باعث برکت سمجھا تھا اور یہی نہیں بلکہ حضرت یعقوب کا یہ عمل ان کی بصارت کے لوٹنے کا سبب بنا تھا۔ کیا یہاں پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان دو انبیاء کے اس عمل نے انہیں توحید اور عبادت خدا کے دائرے سے خارج کر دیا تھا!؟

۲. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول خدا خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت انہوں نے جواب دیا:

.....

(۱) سورہ یوسف آیت: ۹۳

(۲) سورہ یوسف آیت: ۹۶

"ارایت رسول اللہؐ یستلمہ و یقبلہ" (۱)

میں نے رسول خداؐ کو دیکھا ہے کہ وہ حجر اسود کو سلام کر رہے تھے اور بوسے دے رہے تھے۔

اگر ایک پتھر کو سلام کرنا اور بوسے دینا شرک ہوتا تو نبی اکرمؐ ہرگز اس عمل کو انجام نہ دیتے۔

۳. صحیح، مسند اور تاریخی کتابوں میں بہت سی ایسی روایات ہیں جن کے مطابق صحابہ کرام آنحضرتؐ سے منسوب اشیاء جیسے آپ کا لباس، آپ کے وضو کا پانی اور برتن وغیرہ کو باعث برکت سمجھتے تھے اگر ان روایات کا مطالعہ کیا جائے تو اس عمل کے جائز ہونے میں کسی بھی قسم کی تردید باقی نہیں رہے گی۔

اگرچہ اس بارے میں وارد ہونے والی روایات کی تعداد زیادہ ہے اور سب کو اس مختصر کتاب میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں ہم ان میں سے بعض روایتوں کو نمونہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں:

الف: بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں آنحضرتؐ اور ان کے اصحاب کے خصوصیات کو بیان کرنے والی ایک طولانی

روایت کے ضمن میں یوں نقل کیا ہے:

"واذا توضأ کادوا یقتلون علیٰ وضوئہ" (۲)

.....

(۱) صحیح بخاری جزئی ۲ کتاب الحج باب تقبیل الحجر ص ۱۵۱ اور ص ۱۵۲ طبع مصر۔

(۲) صحیح بخاری جلد ۳ باب ما یجوز من الشروط ف الاسلام باب الشروط ف الجہاد والمصالحة ص ۱۹۵

جس وقت پیغمبر خداؐ وضو کرتے تھے تو نزدیک ہوتا تھا کہ مسلمان آپ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لئے آپس میں جنگ شروع کر دیں۔

ب: ابن حجر کہتے ہیں کہ:

"انّ النّبئ کان یؤت بالصیبان فیبرک علیہم" (۱)

بے شک نبی اکرمؐ کی خدمت میں بچوں کو لایا جاتا تھا اور آنحضرتؐ اپنے وجود کی برکت سے انہیں بھی بابرکت بنا دیتے تھے۔

ج: محمد طاہر مکی کہتے ہیں: ام ثابت سے روایت ہوئی ہے وہ کہتی ہیں: کہ رسول خداؐ میرے ہاں تشریف لائے اور آپ نے دیوار پر آویزاں ایک مشک کے دھانے سے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھی اور میں نے اس مشک کے دھانے کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: اسی حدیث کو ترمذی نے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور حسن ہے اور کتاب ریاض الصالحین میں اس حدیث کی شرح میں کہا گیا ہے کہ ام ثابت نے مشک کے دھانے کو اس لئے کاٹ لیا تھا تاکہ وہ اس جگہ کو اپنے پاس محفوظ کر لیں جہاں سے پیغمبر اکرمؐ نے پانی نوش فرمایا تھا کیونکہ وہ اسے باعث برکت سمجھتی تھیں اسی طرح صحابہ کی بھی یہی کوشش رہتی تھی کہ وہ اس جگہ سے پانی پئیں جہاں سے پیغمبر اکرمؐ نے پانی پیا ہو۔ (۲)

.....

(۱) الاصابۃ جلد ۱ خطبہ کتاب ص ۷ طبع مصر
(۲) تبرک الصحابہ (محمد طاہر مکی) فصل اول ص ۲۹ ترجمہ انصاری.

"كان رسول الله ﷺ إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بأنيتهم فيها الماء فما يُوتى باناءٍ إلا غمس يده فيها فرما جاوزوه ف الغداة الباردة فيغمس يده فيها" (۱)

رسول خداؐ جب نماز صبح سے فارغ ہوجاتے تو مدینہ کے خادم پانی کے برتن لئے آنحضرتؐ کی خدمت میں آتے تھے اور آپؐ ان سب برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے تھے بعض اوقات تو وہ لوگ ٹھنڈک والی صبح میں آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے لیکن پھر بھی آنحضرتؐ ان کے برتنوں میں ہاتھ ڈبو دیتے تھے۔ (۲)

گذشتہ دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اولیائے الہی سے منسوب اشیاء کو باعث برکت قرار دینا ایک جائز عمل ہے اور وہ لوگ جو شیعوں پر اس عمل کی وجہ سے تہمت لگاتے ہیں وہ توحید اور شرک کے معنی کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائے ہیں کیونکہ شرک کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی عبادت کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی خدا سمجھا جائے یا یہ عقیدہ ہو کہ خدائی امور اس کے سپرد کر دئیے گئے ہیں اور وہ اپنے وجود اور

.....

(۱) صحیح مسلم جزء ۷ کتاب الفضائل باب قرب النبیؐ من الناس و تبرکھم بہ، ص ۷۹.
(۲) مزید معلومات کے لئے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ فرمائیں:
صحیح بخاری، کتاب اشربہ، مؤطا مالک جلد ۱ ص ۱۳۸ باب صلوة علی النبیؐ، اسدالغابۃ جلد ۵ ص ۹۰، مسند احمد جلد ۴ ص ۳۲، الاستیعاب (الاصابۃ) کے حاشیے میں جلد ۳ ص ۶۳۱، فتح الباری جلد ۱ صفحہ ۲۸۱ اور ۲۸۲.

تأثیر رکھنے میں خدا سے بے نیاز ہے۔ جبکہ شیعہ اولیائے الہی اور ان سے متعلق اشیاء کو خدا کی مخلوق اور اس کا محتاج سمجھتے ہیں اور وہ اپنے اماموں اور دین کے پرچمداروں کے احترام اور ان سے سچی محبت کے اظہار کے لئے ان بزرگوں کو باعث برکت قرار دے کر ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔

شیعوں کا پیغمبر اسلامؐ اور ان کے اہل بیت % کے حرم میں جا کر ان کی ضریح مقدس کو بوسہ دینا یا حرم کے در و دیوار کو مس کرنا صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل پیغمبر خداؐ اور ان کی عترت کے عشق سے سرشار ہیں اور یہ عشق ہر انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے اور یہ ایک انسانی محبت کاجذبہ ہے جو ہر محبتی انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے: اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے:

أمر علیٰ الديار دیار سلمیٰ

اقبل ذالجدار و ذالجدار ا

وما حُبّ الديار شغفن قلب

ولکن حُبّ من سكن الديارا

میں جب سلمیٰ کے دیار سے گزرتا ہوں تو اس دیوار اور اس دیوار کے بوسے لیتا ہوں اس دیار کی محبت نے میرے دل کو لبھایا نہیں ہے بلکہ اس دیار کے ساکن کی محبت نے میرے قلب کو اسیر کر لیا ہے۔

اکیسواں سوال

کیا اسلام کی نگاہ میں دین سیاست سے جدا نہیں ہے؟

جواب: اس سوال کے جواب سے قبل بہتر یہ ہے کہ پہلے سیاست کے معنی کو واضح کر دیا جائے تاکہ دین اور سیاست کا رابطہ سمجھ میں آسکے یہاں سیاست کے دو معنی بیان کئے جاتے ہیں .

۱. سیاست کے یہ معنی مراد لئے جائیں کہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لئے ہر قسم کے وسیلے کو اختیار کیا جائے چاہے وہ وسیلہ دھوکہ اور فریب کاری ہی کیوں نہ ہو (یعنی مقصد کے حصول کے لئے کسی بھی چیز کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے) واضح ہے کہ اس قسم کی سیاست دھوکے اور فریب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور ایسی سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے.

۲. سیاست کے یہ معنی مراد لئے جائیں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق انسانی معاشرے کے نظام کو چلایا جائے اس قسم کی سیاست کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے نظام کو قرآن اور سنت کی روشنی میں چلایا جائے ایسی سیاست دین کا حصہ ہے اور ہرگز اس سے جدا نہیں ہے.

اب ہم یہاں پر سیاست اور دین کے درمیان رابطے اور حکومت کو تشکیل دینے سے متعلق چند دلیلیں پیش کریں گے : اس سلسلے میں واضح ترین گواہ پیغمبر خداؐ کا عمل ہے پیغمبر خداؐ کے اقوال اور کردار کے مطالعے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنی دعوت اسلام کے آغاز ہی سے ایک ایسی مضبوط حکومت قائم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس کی بنیاد خدا پر ایمان کے محکم عقیدہ پر استوار تھی اور جو اسلام کے مقاصد کو پورا کرسکتی تھی یہاں پر بہتر ہے کہ ہم رسول خداؐ کے اس عزم و ارادہ کے سلسلے میں چند شواہد پیش کریں:

پیغمبر خداؐ اسلامی حکومت کے بانی ہیں

۱. جس وقت رسول خداؐ کو حکم ملا کہ لوگوں کو کھلم کھلا طریقے سے اسلام کی دعوت دیں تو اس وقت آنحضرتؐ نے مختلف طریقوں سے جہاد و ہدایت کے زمینے کو ہموار کیا اور اسلامی سپاہیوں کی تربیت اور ان کی آمادگی کا بیڑا اٹھایا اس سلسلے میں آپؐ نزدیک اور دور سے زیارت کعبہ کے لئے آنے والے افراد سے ملاقات کرتے تھے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے اسی دوران آپؐ نے مدینے کے دو گروہوں سے عقبہ کے مقام پر ملاقات کی اور ان سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ لوگ آنحضرتؐ کو اپنے شہر مینبلانینگے اور آپؐ کی حمایت کریں (۱) اور اس طرح اسلامی حکومت قائم

.....

(۱) سیرہ ہشام جلد ۱ ص ۴۳۱ مبحث عقبہ اولی طبع دوم مصر

کرنے کے لئے آنحضرتؐ کی سیاست کا آغاز ہوا .

۲. رسول خداؐ نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک ایسی مضبوط فوج تیار کی جس نے بیاسی جنگیں لڑیں اور ان جنگوں میں کامیابی حاصل کر کے اسلامی حکومت کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا.

۳. مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد آنحضرتؐ نے اس زمانے کی سیاسی اور اجتماعی بڑی طاقتوں کے پاس اپنے سفیر اور خطوط بھیج کر ان سے رابطہ قائم کیا اور بہت سے قبیلوں کے سربراہوں سے اقتصادی، سیاسی اور فوجی معاہدے کئے تاریخ نے پیغمبر خداؐ کے ان خطوط کی خصوصیات و تفصیلات کو بیان کیا ہے جو آپؐ نے ایران کے شہنشاہ "کسریٰ"، روم کے بادشاہ "قیصر"، مصر کے بادشاہ "موقس"، حبشہ کے بادشاہ "نجاشی" اور دوسرے بادشاہوں کو بھیجے تھے . بعض محققین نے آنحضرتؐ کے ان خطوط کو اپنی مستقل کتابوں میں جمع کیا ہے (۱)

۴. رسول خداؐ نے اسلام کے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور اسلامی حکومت کے استحکام کے لئے بہت سے قبیلوں اور شہروں کے لئے حکام معین فرمائے تھے ہم یہاں اس سلسلے میں بطور مثال ایک نمونے کا ذکر کرتے ہیں پیغمبر اسلامؐ نے رفاعہ بن زید کو اپنا نمائندہ بنا کر انہیں ان کے اپنے قبیلے کی طرف روانہ کیا اور خط میں یوں تحریر فرمایا :

"بسم الله الرحمن الرحيم ، (هذا كتاب) من

.....

(1) جیسے کہ "الوثائق السياسية" (مؤلفہ محمد حمید اللہ) "مکاتیب الرسول" (مؤلفہ علی احمدی) ہیں۔

محمد رسول اللہ ﷺ رفاعة بن زيد بعثته إلى قومه عامة و من دخل فيهم يدعوهم إلى الله والى رسوله فمن اقبل منهم فف حزب الله و حزب رسولہ و من أدبر فله أمان شهرين" (1) شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے محمد رسول خدا کی طرف سے یہ نوشتہ رفاعة بن زيد کے نام، بے شک میں انہیں ان کی قوم کے عام لوگوں اور قوم میں شامل ہوجانے والوں کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ انہیں خدا اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیں پس جس نے ان کی دعوت کو قبول کیا وہ خدا اور اس کے رسول کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اور جو ان کی دعوت سے روگردانی کرے گا اس کے لئے صرف دو ماہ کی امان ہے۔ پیغمبر اسلام کے ان اقدامات سے بخوبی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ بعثت کے آغاز ہی سے ایک ایسی مضبوط حکومت بنانا چاہتے تھے کہ جس کے سائے مینانسانی معاشرے کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق، اسلام کے احکام کونافذ کیا جاسکے، اب سوال یہ ہے کہ رسول خدا کا مختلف گروہوں اور قدرتمند قبیلوں سے معاہدہ کرنا، ایک

(1) مکاتیب الرسول جلد ۱ ص ۱۴۴۔

مضبوط فوج تیار کرنا، مختلف ممالک میں سفیر بھیجنا اور اس زمانے کے بادشاہوں کو خبردار کرنا، نیز ان سے خط و کتابت کرنا ساتھ ہی ساتھ شہروں کے گورنر اور حکام معین کرنا اور ایسے ہی دوسرے امور کا انجام دینا اگر سیاست نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ پیغمبر اسلام کی سیرت کے علاوہ خلفائے راشدین کا کردار اور خاص طور پر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب - کا طرز عمل بھی شیعوں اور اہل سنت دونوں فرقوں کیلئے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ دونوں اسلامی فرقوں کے علماء نے حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید اور سنت پیغمبر سے مفصل دلیلیں بیان کی ہیں نمونے کے طور پر ہم ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں:

ابوالحسن ماوردی نے اپنی کتاب "احکام سلطانیہ" میں یوں لکھا ہے:

"المامة موضوعة لخلافة النبوة ف حراسة الدين و سياسة الدنيا و عقدها لمن يقوم بها ف الأمة واجب بالجماع" (1)

امامت کو نبوت کی جانشینی کے لئے قرار دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ دین کی حفاظت کی جاسکے اور دنیا کی سیاست و حکومت کا کام بھی چل سکے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسی حکومت قائم کرنا اس شخص پر واجب ہوجاتا ہے جو اس کام کو انجام دے سکتا ہو۔

(1) الاحکام السلطانية (ماوردی) باب اول ص ۵ طبع مصر۔

اہل سنت کے مشہور عالم ماوردی نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے دو طرح کی دلیلیں پیش کی ہیں:

۱۔ عقلی دلیل

۲۔ شرعی دلیل

عقلی دلیل کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

"لما ف طباع العقلاء من التسليم لزيم يمنعمهم من التظالم و يفعل بينهم ف التنازع و التخاصم و لولا الولاة لكانوا فوضى مهملين همجا مضاعين" (1)

کیونکہ یہ بات عقلاء کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی رہبر کی پیروی کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے سے روکے اور اختلاف اور جھگڑوں کی صورت میں ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرے اور اگر ایسے حکام نہ ہوتے تو لوگ پر اگندہ اور پریشان ہوجاتے اور پھر کسی کام کے نہ رہ جاتے۔

اور شرعی دلیل کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

"ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه ف الدين قال الله عزوجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

.....
(۱) الاحکام السلطانیة (ماوردی) باب اول ص ۵ طبع مصر.

طَبِعُوا اللَّهَ وَطَبِعُوا الرَّسُولَ وَوَلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ففرض علينا طاعة أول الأمر فينا وهم الأئمة المأمرون علينا" (۱)
لیکن شرعی دلیل میں یہ ہے کہ دین کے امور کو ولی کے سپرد کر دیا گیا ہے خداوند کریم فرماتا ہے: ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہیں میں سے ہیں۔ پس خداوند نے ہم پر صاحبان امر کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے اور وہ ہمارے امام ہیں جو ہم پر حکومت کرتے ہیں۔
شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فضل بن شاذان سے ایک روایت نقل کی ہے جو ہمارے آٹھویں امام علی بن موسیٰ الرضا - کی طرف منسوب ہے اس طولانی روایت میں امام - نے حکومت قائم کرنے کو ایک لازمی امر قرار دیا ہے۔ ہم اس روایت کے چند جملے ذکر کرتے ہیں:

"تَا لَا نَجِدُ فَرْقَةَ مِنَ الْفِرْقِ وَلَا مَلَّةَ مِنَ الْمَلَلِ
بِقُوا وَعَاشُوا لَا بَقِيمَ وَرَيْسَ، لَمَا لَا بَدَّ لَهُمْ
مَنْهُ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، فَلَمْ يَجْزِ فَحِكْمَةَ
الْحَكِيمَانِ يَتْرَكَ الْخَلْقَ لَمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بَدَّ لَهُمْ مِنْهُ

.....
(۱) الاحکام السلطانیة (ماوردی) باب اول ص ۵ طبع مصر.

والقوام لهم لا به فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيهم و يقيمون به جمعهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم" (۱)
ہمیں کوئی ایسی قوم یا ملت نہیں ملے گی جو اس دنیا میں باقی رہی ہو اور اس نے زندگی گزار ی ہو سوائے یہ کہ اس کے پاس ایک ایسا رہبر اور رئیس رہا ہو جس کے وہ لوگ دین اور دنیا کے امور میں محتاج رہے ہوں پس خداوند حکیم کی حکمت سے یہ بات دور ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایک ایسی چیز عطا نہ فرمائے جس کے وہ لوگ محتاج ہیں اور اسکے بغیر باقی نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ لوگ اپنے رہبر ہی کی ہمرابی میں اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اسی کے حکم سے مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کی اقتداء میں نماز جمعہ اور بقیہ نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں اور رہبر ہی ظالموں سے مظلوموں کو بچاتا ہے۔

اس سلسلے میں وارد ہونے والی ساری روایتوں کی تشریح کرنا اور تمام مسلمان فقہاء کے اقوال کا جائزہ لینا اس مختصر کتاب کی گنجائش سے باہر ہے اس کام کے لئے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ اسلامی فقہ کا دقت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ شریعت کے بہت سے قوانین ایسے ہیں جو ایک مضبوط حکومت کے بغیر نافذ نہیں کئے جاسکتے ہیں۔

اسلام ہمیں جہاد اور دفاع کرنے، ظالم سے انتقام لینے اور مظلوم کی حمایت کرنے، شرعی حدود اور تعزیرات جاری کرنے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر انجام دینے، ایک مالی نظام برقرار کرنے اور اسلامی معاشرے میں وحدت قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اب یہ بات واضح ہے کہ مذکورہ اہداف ایک مضبوط نظام اور حکومت کے بغیر پورے نہیں ہوسکتے کیونکہ شریعت کی حمایت اور اسلام سے دفاع کرنے کے لئے ایک تربیت یافتہ فوج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس قسم کی طاقتور فوج تیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک مضبوط حکومت قائم کی جائے اور اسی طرح فرائض کی پابندی اور گناہوں سے دوری کے لئے حدود اور تعزیرات کو جاری کرنا اور ظالموں سے مظلوموں کا حق لینا ایک حکومت اور نظام کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر قوی حکومت نہ پائی جاتی ہو تو معاشرہ فتنہ اور آشوب کی آماجگاہ بن جائے گا اگرچہ حکومت قائم کرنے کے لازمی ہونے کے سلسلے میں ہماری ان دلیلوں کے علاوہ بھی بہت سی دلیلیں ہیں لیکن ان دلیلوں ہی سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ نہ صرف دین سیاست سے جدا نہیں ہے بلکہ شریعت کے قوانین کے مطابق اسلامی حکومت قائم کرنا ایک لازمی امر ہے جو کہ اس دنیا میں پائے جانے والے ہر اسلامی معاشرہ کے لئے ایک فریضہ قرار دیا گیا ہے۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

بانیسواں سوال

شیعہ ، حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹوں (امام حسن اور امام حسین) کو رسول خداؐ کے بیٹے کیوں کہتے ہیں؟

جواب: تفسیر، تاریخ اور روایات کی کتابوں کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ صرف شیعہ ہی یہ نظریہ نہیں رکھتے بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سارے مسلمان محققین چاہے وہ کسی بھی اسلامی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ، اسی نظریے کو قبول کرتے ہیں۔

اب ہم قرآن مجید، احادیث اور مشہور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کے دلائل کو بیان کریں گے :
قرآن مجید کی ایک اصل یہ ہے کہ اس نے ایک انسان کی نسل سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسی انسان کی اولاد قرار دیا ہے اس اعتبار سے ایک انسان کی بیٹی یا اس کے بیٹے سے پیدا ہونے والی اولاد قرآن مجید کی نگاہ میں اس انسان کی اولاد ہے۔

قرآن مجید اور سنت پیغمبرؐ میں اس حقیقت کے متعلق بہت سے شواہد موجود ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں :
۱۔ مندرجہ ذیل آیت میں قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ - کو حضرت ابراہیم - کی اولاد میں شمار کیا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ - حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور ان کا سلسلہ نسب ماں کے ذریعہ حضرت ابراہیم - تک پہنچتا ہے:
(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى) (۱)

اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیئے اور سب کو ہدایت بھی دی اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، اور ہارون قرار دیئے اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اور (اسی طرح ابراہیم کی اولاد میں سے) زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ ہیں۔
مسلمان علماء اس آیت شریفہ کو اس بات پر شاید قرار دیتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رسول خداؐ کی اولاد اور آپؐ کی ذریت میں سے ہیں نمونے کے طور پر ہم

.....

(۱)سورہ انعام آیت : ۸۴ اور ۸۵

یہانان علماء میں سے ایک عالم کے کلام کو پیش کرتے ہیں:

جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

"أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال: بلغن أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبت تجده ف كتاب الله و قد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده قال : ألسنت تقرأ سورة الانعام (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ) حتى بلغ يحيى وعيسى ؟ قال بلى قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت" (۱)

حجاج نے یحییٰ بن یعمر کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے یہ کہا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ حسن اور حسین نبی اکرمؐ کی ذریت میں سے ہیں کیا تم نے اس بات کو کتاب خدا سے حاصل کیا ہے جبکہ میں نے قرآن مجید کو اول سے آخر تک پڑھا ہے لیکن میں نے کوئی ایسی بات اس میں نہیں دیکھی ہے۔

یحییٰ بن یعمر نے کہا کیا تم نے سورہ انعام نہیں پڑھا ہے جس میں یہ ہے "وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ" یہاں تک کہ خدا

(۱) تفسیر در المنثور جلد ۳ ص ۲۸ طبع بیروت سورہ انعام کی ۸۴ اور ۸۵ آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

ہے و یحییٰ و عیسیٰ؟" حجاج نے کہا کیوں نہیں پڑھی ہے یحییٰ نے کہا کیا حضرت عیسیٰ - حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے نہ تھے جب کہ ان کا کوئی باپ نہ تھا (اور ان کا سلسلہ نسب ماں کے ذریعہ حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے) حجاج نے جواب میں کہا کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔

مذکورہ آیت اور مفسرین کے اقوال سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوجاتی ہے کہ نہ صرف شیعہ بلکہ تمام مسلمان علماء امام حسن اور امام حسین کو رسول خداؐ کی ذریت اور اولاد سمجھتے ہیں۔

۲۔ اس قول کے صحیح ہونے پر ایک بہت ہی واضح دلیل آیہ مباہلہ ہے اب ہم اس آیت کو مفسرین کے اقوال کے ساتھ پیش کرتے ہیں:

(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ بُنَانَنَا وَبَنَاتِنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَائِكُمْ وَنَفْسَنَا وَنَفْسَكُمْ ثُمَّ نَنْبِئْكُمْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (۱)

(اے پیغمبر) علم کے آجانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ جاتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ اُو ہم لوگ اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔

(۱) سورہ آل عمران آیت : ۶۱

مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت "مباہلہ" کے نام سے مشہور ہے یہ آیت عیسائیوں کے سرداروں سے مناظرہ کرنے کے سلسلہ میں اس وقت نازل ہوئی جب وہ کٹ جاتی سے باز نہ آئے اور آنحضرت حکم خدا سے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین % کی ہمراہی میں مباہلہ کے لئے تشریف لے گئے اور جب نصاریٰ کے بزرگوں نے پیغمبر خداؐ اور ان کے اہل بیت % کی یہ شان اور بیبت دیکھی تو وہ سب خوفزدہ ہو گئے اور آنحضرتؐ کی خدمت میں آکر یہ التماس کرنے لگے کہ آنحضرتؐ ان پر لعنت نہ کریں آنحضرت نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس قصے کو ختم کر دیا شیعہ اور سنی علماء اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ مباہلہ کے دن حضرت امیر المومنین، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور

حضرت امام حسین % رسول خداؐ کے ہمراہ تھے اس سے یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ "ابنائنا" (یعنی ہمارے فرزند) سے رسول خداؐ کی مراد امام حسن اور، امام حسین ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوجاتا ہے کہ آیہ مباہلہ نے بھی حضرت امام حسن اور امام حسین کو رسول خداؐ کا فرزند قرار دیا ہے۔

یہاں پر اس نکتے کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مفسرین نے آیہ مباہلہ کے ذیل میں بہت سی روایات ذکر کرنے کے بعد اس قول کے صحیح ہونے کی گواہی دی ہے نمونے کے طور پر ہم ان میں سے بعض مفسرین کے کلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

الف: جلال الدین سیوطی نے حاکم، ابن مرودیہ، اور ابونعیم سے اور انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے نقل کیا ہے: وہ کہتے ہیں: (انفسنا و انفسکم) رسول اللہ و علی، "ابنائنا" الحسن والحسین و "نساننا" فاطمہ. (۱)

(انفسنا) "یعنی ہماری جانوں" سے مراد رسول خداؐ اور حضرت علی - ہیں اور (ابنائنا) (یعنی ہمارے بیٹوں) سے مراد حسن و حسین ہیں اور (نساننا) (ہماری عورتوں) سے مراد فاطمہ زہرا ہیں۔

ب: فخر رازی اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

واعلم ان هذه الرواية كالتفق على صحتها بين اهل التفسير والحديث (۲)

جان لو کہ یہ روایت ایسی حدیث ہے کہ جس کے صحیح ہونے پر اہل تفسیر اور اہل حدیث کا اتفاق ہے۔ اور پھر اس کے بعد یوں کہتے ہیں

"المسألة الرابعة: هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين كانا ابن رسول الله و قد أن يدعوا أبناؤه فدعا الحسن والحسين فوجب أن

یکون ابنیہ" (۳)

.....

(۱) تفسیر در المثور جلد ۲ ص ۳۹ طبع بیروت اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

(۲) تفسیر "مفاتیح الغیب" جلد ۲ ص ۴۸۸ طبع اول مصر ۱۳۰۸ ھ۔

(۳) تفسیر "مفاتیح الغیب" جلد ۲ ص ۴۸۸ طبع اول مصر ۱۳۰۸ ھ۔

یہ آیہ کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حسن اور حسین پیغمبر اکرمؐ کے فرزند تھے طے یہ ہوا تھا کہ رسول خداؐ اپنے بیٹوں کو بلائیں پس آنحضرتؐ نے حسن و حسین ہی کو بلا یا تھا پس یہ ثابت ہو گیا کہ وہ دونوں آنحضرتؐ کے بیٹے ہیں۔

ج: ابو عبد اللہ قرطبی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ :

(ابنائنا) دلیل علیٰ أن أبناء البنات یسمون أبناء أ. (۱)

کلمہ ابنائنا دلیل ہے کہ بیٹی سے ہونے والی اولاد بھی انسان کی اولاد کہلاتی ہے۔

۳۔ رسول خداؐ کے اقوال شہاد ہیں کہ امام حسن اور امام حسین آنحضرتؐ کے فرزند تھے یہاں پر ہم آنحضرتؐ کے صرف دو اقوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں :

الف: رسول خداؐ حسن اور حسین کے متعلق فرماتے ہیں :

هذان ابنا من أحبهما فقد أحببنا. (۲)

حسن اور حسین میرے دو فرزند ہیں جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی .

ب: پیغمبر اسلام نے حسن اور حسین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

ن ینّ ھذین ریحانت من الدنیا. (۳)

میرے یہ دو بیٹے اس دنیا سے میرے دو پھول ہیں۔

.....

(۱) الجامع لاحکام القرآن جلد ۴ ص ۱۰۴ طبع بیروت۔

(۲) تاریخ مدینہ دمشق مصنفہ ابن عساکر ترجمۃ الامام الحسین - ص ۵۹ حدیث ۱۰۶ طبع اول بیروت ۱۴۰۰ ھ۔

(۳) گذشتہ حوالہ ص ۶۲ حدیث نمبر ۱۱۲۔

تیئیسواں سوال

شیعوں کے نزدیک یہ کیوں ضروری ہے کہ خلیفہ کو خدا اور رسولؐ ہی معین فرمائیں؟

جواب: یہ واضح ہے کہ اسلام ایک ہمیشہ رہنے والا عالمی دین ہے پیغمبر اسلامؐ کی حیات طیبہ میں آپ ہی امت کے رہبر اور ہادی تھے لیکن آپ کی رحلت کے بعد ضروری تھا کہ جو سب سے زیادہ لائق فرد ہو اسے امت اسلامیہ کی رہبری سونپ دی جائے .

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پیغمبر اسلامؐ کے بعد خلیفہ، نص کے ذریعہ معین کیا جائے گا (یعنی خدا اور رسولؐ ہی اپنا خلیفہ معین فرمائیں گے) یا یہ کہ خلافت ایک انتخابی عہدہ ہے؟ اس سلسلہ میں چند نظریے پائے جاتے ہیں شیعوں کا اعتقاد ہے کہ منصب خلافت نص کے ذریعہ معین ہوتا ہے یعنی یہ ضروری ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کا جانشین خدا کی جانب سے معین کیا جائے .

جب کہ اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ منصب خلافت ایک انتخابی عہدہ ہے اور ضروری ہے کہ پیغمبر خداؐ کی امت، مملکت کے امور کو چلانے کے لئے کسی ایک شخص کو خلیفہ چن لے۔

عصر رسالت کے حالات کا تجزیہ بتاتا ہے کہ خلیفہ کو

نص کے ذریعہ معین ہونا چاہئے۔

شیعہ علماء نے عقائد کی کتابوں میں خلیفہ کے نص کے ذریعہ معین کئے جانے کے بارے میں بہت سے دلائل بیان کئے ہیں لیکن وہ دلیل جسے یہاں بیان کیا جاسکتا ہے اور جس سے شیعوں کا عقیدہ بھی واضح ہوجاتا ہے وہ عصر رسالت کے حالات کا صحیح تجزیہ ہے۔

عصر رسالت میں اسلام کی داخلی اور خارجی سیاست کا یہ تقاضا تھا کہ پیغمبر خداؐ کا جانشین خدا کی طرف سے خود آنحضرتؐ کے ذریعہ معین کیا جائے کیونکہ مسلمانوں کو ہر لحظہ تین بڑی طاقتوں (روم کی سلطنت، ایران کی بادشاہت اور منافقین حجاز کی سازشوں) کی طرف سے شکست اور نابودی کا خطرہ لاحق تھا اسی طرح امت کی کچھ مصلحتیں بھی تقاضا کر رہی تھیں کہ پیغمبر اسلامؐ اپنا خلیفہ معین کر کے ساری امت کو بیرونی دشمن کی طاقت کے مقابلے میں ایک صف مینکھڑا کر دیں اور اس طرح ملت اسلامیہ کو ان داخلی اختلافات سے بچالیں جن سے دشمنوں کے نفوذ اور تسلط کا موقع فراہم ہوسکتا ہے۔

اس کی وضاحت

ان تین خطرناک طاقتوں میں سے ایک طاقت روم کی بادشاہی تھی جس سے پیغمبر اسلامؐ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک فکر مند رہے ہجرت کے آٹھویں سال فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں اور روم کے عیسائیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں اسلامی فوج کے تین کمانڈر "جعفر طیار" "زید بن حارثہ" اور "عبداللہ بن رواحہ" شہید ہوئے تھے اور سپاہ اسلام کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی اس شکست سے قیصر روم کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ہر وقت اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں وہ اسلام کے مرکزی علاقوں پر حملہ آور نہ ہوجائیں۔

اسی وجہ سے پیغمبر اسلامؐ نے ہجرت کے نویں سال مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر کو شام کے اطراف میں بھیجا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آگئی تو آنحضرتؐ خود لشکر اسلام کی رہبری فرمائیں گے اس درد و رنج والے سفر میں سپاہ اسلام نے اپنی سابقہ شوکت پھر سے حاصل کی اور اسے اس کا سیاسی مقام و منصب دوبارہ مل گیا پیغمبر اسلامؐ اس فتح کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوئے اور آپؐ نے اپنی بیماری سے چند دن پہلے مسلمانوں کی فوج کو "اسامہ" کی قیادت میں شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔

عصر رسالت میں مسلمانوں کی دوسری دشمن طاقت ایران کی بادشاہی تھی یہاں تک کہ ایران کے بادشاہ نے انتہائی غصے سے آنحضرتؐ کے خط کو پھاڑ دیا تھا اور آپؐ کے ایلچی کو توہین کے ساتھ باہر نکال دیا تھا اور نیز یمن کے گورنر کو خط لکھا تھا کہ پیغمبر اسلامؐ کو گرفتار کر لے اور ممانعت کی صورت میں انہیں قتل کر ڈالے۔

اگرچہ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز رسول خداؐ کے زمانے ہی میں مر گیا تھا لیکن مدتوں سے ایران کے زیر اقتدار رہنے والے ملک یمن کا مسلمانوں کے ذریعہ استقلال حاصل کر لینا ایرانی بادشاہوں کو شدید ناگوار گزرا اس وجہ سے ایران کی سطوت شاہی کے لئے اسلام کی طاقت کو پھلنا پھولنا دیکھنا برداشت کے قابل نہیں تھا۔

مسلمانوں کو تیسرا خطرہ منافقین کے گروہ سے تھا منافقوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اندازی کے ذریعہ فتنہ و فساد پیدا کریں ان لوگوں کے نفاق اور کینہ کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے تبوک سے مدینہ کے راستے میں حضرت رسول اکرمؐ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ رسول خداؐ کی رحلت سے اسلام کی تحریک ختم ہوجائے گی اور وہ لوگ آسودہ خاطر ہوجائیں گے منافقین کے عزائم اور ان کی سازشوں کو آشکار کرنے کے لئے قرآن مجید نے ان سورتوں : آل عمران ، نساء ، مائدہ، انفال ، توبہ، عنکبوت،

احزاب، محمد، فتح، مجادلہ، حدید، منافقین اور حشر میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ (۱)

اسلام کے ایسے سرسخت اور خطرناک دشمنوں کی موجودگی میں کیا یہ صحیح تھا کہ رسول خداؐ تازہ مسلمانوں کے دینی اور سیاسی امور کی رہبری کے لئے اپنا کوئی جانشین معین نہ فرماتے؟

اس وقت کے اجتماعی حالات کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ضروری تھا کہ رسول خداؐ اپنے بعد اپنا جانشین معین کر کے ہر قسم کے اختلاف کا سد باب کردیتے اور ایک مستحکم دفاعی نظام تشکیل دیتے ہوئے اسلامی وحدت کو دوام بخشتے اگر

.....

(۱) فروغ ابدیت ، مولف استاد جعفر سبحانی (اقتباس)

آنحضرتؐ اپنا کوئی خلیفہ معین نہ فرماتے تو عالم اسلام کو شدید قسم کے ناگوار واقعات کا سامنا کرنا پڑتا اور نتیجہ بر گروہ یہ کہنے لگتا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہئے۔

رسول خداؐ کی حدیثیں

اجتماعی حالات کے تقاضوں اور چند دوسری وجوہات کی بنیاد پر آنحضرتؐ نے اول بعثت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنی جانشینی کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے آپؐ نے دعوت ذوالعشیرہ میں جہاں اپنی رسالت کا اعلان فرمایا وہیں اپنے جانشین کو بھی معین فرما دیا تھا اور اسی طرح اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع سے لوٹتے وقت غدیر خم کے میدان میں اپنے جانشین کا اعلان فرمایا تھا اور نہ صرف ان دو مقامات پر بلکہ آنحضرتؐ اپنی ساری زندگی کے دوران مختلف مقامات پر اپنے جانشین کی شناخت کراتے رہے مزید تفصیلات کے لئے اسی کتاب میں تیسرے سوال کے جواب کا مطالعہ فرمائیں ہم نے وہاں پیغمبر اسلامؐ کی حدیثوں کے تین ایسے نمونے ذکر کئے ہیں جن میں آنحضرتؐ کے جانشین کا تذکرہ ہے وہاں ہم نے ان حدیثوں کے ماخذ بھی ذکر کئے ہیں۔

صدر اسلام کے حالات اور پیغمبر اسلامؐ کی ان حدیثوں (جن میں آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے) کے مطالعے سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ خلیفہ خدا و رسول ہی کی طرف سے معین ہوتا ہے۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

چوبیسواں سوال

کیا غیر خدا کی قسم کھانا شرک ہے؟

جواب: لفظ توحید اور شرک کے معنی جاننے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کی آیات اور حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے کیونکہ قرآن مجید اور سنت رسولؐ حق کو باطل سے اور توحید کو شرک سے جدا کرنے کا بہترین معیار ہیں۔ اس بنیاد پر بہتر ہے کہ ہر قسم کے نظریہ اور عمل کو قرآن اور سنت پیغمبرؐ کی روشنی میں زندہ اور بے تعصب ضمیر کے ساتھ پرکھیں اب ہم یہاں پر قرآن و سنت سے غیر خدا کی قسم کھانے کے جائز ہونے پر چند دلیلیں پیش کریں گے:

۱۔ قرآن مجید میں چند محترم مخلوقات جیسے "پیغمبر اکرمؐ" اور "روح انسان" "قلم" "سورج" "چاند" "ستارے" "دن اور رات" "آسمان اور زمین" "زمانے" "پہاڑ اور سمندر" وغیرہ کی قسم کھانی گئی ہے یہاں ہم ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں:

الف: (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) (۱)

.....

(۱) سورہ حجر آیت ۷۲

(پیغمبرؐ!) آپ کی جان کی قسم یہ لوگ اپنی خواہش نفس کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔

ب: (وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ ذَا نَلَّابَةِ وَالنَّهَارُ ذَا جَلَّابَةِ وَاللَّيْلُ ذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا وَالرُّضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالَهُمْ بَأْسٌ فَجَورًا وَتَوَّابًا...) (۱)

آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم۔ اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے۔ اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے۔ اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے۔ اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا۔ اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا۔ اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا۔ پھر بدی اور تقویٰ کی ہدایت دی ہے۔

ج: (وَالنَّجْمِ ذَا بَوَى) (۲)
 قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔
 د: (وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) (۳)

(۱) سورہ شمس آیت ۱ تا ۸
 (۲) سورہ نجم آیت: ۱
 (۳) سورہ قلم آیت: ۱

ه: (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) (۱)
 قسم ہے عصر کی . بے شک انسان خسارے میں ہے۔
 و: (وَالْفَجْرِ لَيَالٍ عَشْرٍ) (۲)
 قسم ہے فجر کی . اور دس راتوں کی۔
 ز: (وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مُّسْتَوٍ فَ رَقٌّ مَنْشُورٍ وَالنَّبِيِّتِ الْمَعْمُورَةِ وَالسَّافِرِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) (۳)
 طور کی قسم . اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم . جو کشادہ اوراق میں ہے . اور بیت معمور کی قسم . اور بلند چھت (آسمان) کی قسم . اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم .
 اسی طرح ان سورتوں " نازعات " "مرسلات " "بروج" "طارق" "بلد" "تین" "ضحی" میں بھی دنیا کی مختلف اشیاء کی قسمیں کھائی گئی ہیں .
 اگر غیر خدا کی قسم کھانا شرک ہوتا تو اس قرآن مجید میں جو توحید کا مظہر ہے ، ہر گز غیر خدا کی قسمیں نہ کھائی جاتیں اور اگر اس قسم کی قسمیں کھانا صرف خداوند کی

(۱) سورہ عصر آیت ۱ اور ۲ .
 (۲) سورہ فجر آیت : ۱ اور ۲ .
 (۳) سورہ طور آیت نمبر ۱ سے ۶ تک .

خصوصیات میں سے ہوتا تو قرآن مجید میں ضرور اس بات کی طرف متوجہ کرادیا جاتا تاکہ بعد میں کسی کو دھوکہ نہ ہو .
 ۲ دنیا کے سارے مسلمان رسول خداؐ کو اپنے لئے اسوہ عمل سمجھتے ہیں اور آنحضرتؐ کی سیرت کو حق اور باطل کی شناخت کے لئے میزان قرار دیتے ہیں .
 عالم اسلام کے محققین اور اہل سنت کی صحیح اور مسند کتابوں کے مؤلفین نے پیغمبر خداؐ کی بہت سی ایسی قسموں کو نقل کیا ہے جو حضور اکرمؐ نے غیر خدا کے نام سے کھائی تھیں .
 احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں پیغمبر اسلامؐ سے یوں روایت کی ہے :
 "فلعمر لأن تتكلم بمعروف و تنهى عن منكر خير من أن تسكت" .. (۱)
 میری جان کی قسم ! تمہارے خاموش رہنے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ تم امر بمعروف اور نہی از منکر کرو .
 مسلم بن حجاج کا اپنی کتاب صحیح میں بیان ہے کہ :
 جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله أ الصدقة أعظم أجراً؟ فقال: أما و أبيك لتنبأنه أن تصدق و أنت صحيح شحيح تخشى الفقر و تأمل البقائ..... (۲)

(۱) مسند احمد جلد ۵ ص ۲۲۴ اور ۲۲۵ حدیث بشیر ابن خصاصیہ سدوسی .
 (۲) صحیح مسلم، جزء سوم ، طبع مصر ، کتاب الزکاة، باب بیان ان افضل الصدقة ، صدقة الصحيح الشحيح، ص ۹۳ اور ۹۴

ایک شخص نبی اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کو نسا صدقہ زیادہ اجر رکھتا ہے ؟ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: تمہارے باپ کی قسم یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ (سب سے زیادہ اجر والا صدقہ) یہ ہے کہ تم صحت مندی،

آرزوئے حیات ، خوف فقر اور امید بقاء کے ساتھ صدقہ دو جو لوگ دنیا کے اکثر مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے مشرک سمجھتے ہیں کہ وہ سب غیر خدا کی قسم کھاتے ہیں تو وہ پیغمبر خدا کے اس عمل کی کیا تاویل کریں گے ؟
۳. کتاب خدا اور سنت پیغمبرؐ کے علاوہ رسول خداؐ کے انتہائی قریبی اور متعبر اصحاب کی سیرت بھی اس عمل کے جائز ہونے کی بہترین دلیل ہے .

عالم اسلام کے عظیم الشان ربیر حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے بہت سے گہر بار خطبوں اور بیانات میں اپنی جان کی قسم کھائی ہے وہ فرماتے ہیں :

ولعمر لیضعفن لكم التیہ من بعد أضعافا (۱)

میری جان کی قسم میرے بعد تمہاری یہ حیرانی اور سرگردانی کئی گنا بڑھ جائے گی ۔
ایک جگہ اور فرماتے ہیں :

"ولعمر لأن لم تنزع عن غیک و شقاقک لتعرفنہم عن قلیل یطلبونک" (۲)

.....

(۱) نبی البلاغہ (محمد عیدہ) خطبہ نمبر ۱۶۱ .

(۲) نبی البلاغہ (محمد عیدہ) مکتوب نمبر ۹ .

میری جان کی قسم اگر تم اپنی گمراہی اور شقاوت سے دست بردار نہ ہوئے تو عنقریب انہیں دیکھو گے کہ وہ لوگ تمہیں بھی ڈھونڈ لیں گے۔ (۱)

اب واضح ہے کہ ان سب روایات کے مقابلے میں اجتہاد اور استحسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی بھی دلیل قرآن مجید کی آیتوں، پیغمبر اکرمؐ کی سنت اور معتبر صحابہ کی سیرت کو غلط قرار نہیں دے سکتی اور نہ ہی ان کی طرف شرک کی نسبت دے سکتی ہے۔

نتیجہ: گزشتہ دلائل کے مجموعے سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ قرآن و سنت اور مومنین کی سیرت کے اعتبار سے غیر خدا کی قسم کھانا ایک جائز اور مسلم اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور کسی بھی طرح عقیدہ توحید سے نہیں ٹکراتا .
لہذا اگر کوئی روایت ظاہری طور پر ان یقینی دلیلیوں کی مخالفت کرے تو اس کی تاویل کرنی چاہیے تاکہ وہ قرآن و روایات کی مسلم اصل کے موافق ہوجائے .

بعض اوقات ایک ایسی مبہم سی روایت کو پیش کیا جاتا ہے جس میں اس عمل کی مخالفت کی گئی ہے یہاں ہم اس روایت کو اسکے جواب کے ساتھ بیان کرتے ہیں :

إن رسول الله سمع عمر و هو يقول : وأب، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم و من كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت (۲)

.....

(۱) اور زیادہ موارد کی آگاہی کے لئے خطبہ نمبر ۱۸۲، ۱۶۸، اور ۱۸۷ اور مکتوب نمبر ۶ اور ۵۴ کی طرف رجوع فرمائیے۔

(۲) سنن الکبریٰ ، جلد ۱۰ ص ۲۹ اور سنن نسائی جلد ۷ صفحہ نمبر ۵ اور ۶ .

رسول خداؐ نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا میرے باپ کی قسم (یہ سن کر) پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا خداوند کریم نے تم لوگوں کو اپنے باپ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے اور جسے قسم کھانا ہو وہ خدا کی قسم کھائے یا پھر چپ رہے .
اگرچہ یہ حدیث قرآن کی ان آیات اور روایات کے مقابلے میں جو غیر خدا کی قسم کھانے کو جائز قرار دیتی ہیں ، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے لیکن پھر بھی اس حدیث کو آیات اور روایات کے ہمراہ لانے کے لئے یہ کہنا ضروری ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے حضرت عمر اور ان جیسے افراد کو اپنے باپ کی قسم کھانے سے اس لئے روکا تھا کہ ان کے باپ مسلمان نہیں تھے اور غیر مسلموں کی قسمینہیں کھانی جاسکتیں۔

پچیسواں سوال

کیا اولیائے خدا سے توسل کرنا شرک اور بدعت ہے؟

جواب: توسل کے معنی یہ ہیں کہ تقرب الہی کے لئے کسی محترم مخلوق کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ قرار دیا جائے

ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں :

"توسل إليه بكذا ، تقرب إليه بجرمة أصره تعطفه عليه" (۱)

اس نے فلان چیز کے ذریعہ اس شخصیت سے توسل کیا یعنی اس نے اس چیز کی حرمت کے ذریعہ اس ذات سے قربت اختیار کی جب کہ اس کی حرمت سے اپنی قلبی محبت کو اپنے اندر محسوس کیا .
قرآن مجید فرماتا ہے:

(۱) لسان العرب، جلد ۱۱ ص ۷۳۴ .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (۱)
ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ .

جوہری "صاحح اللّغة" میں "وسیلہ" کی تعریف کو یوں بیان کرتے ہیں:

"الوسيلة ما يتقرب به الى الغير"

وسیلہ ایسی چیز ہے جسکے ذریعہ کسی دوسرے کے قریب ہوا جائے اس اعتبار سے بعض اوقات انسان کے نیک اعمال اور خدا کی خالص عبادت اس کیلئے وسیلہ بنتے ہیں اور کبھی کبھی خدا کے محترم اور مقدس بندے انسان کے لئے وسیلہ قرار پاتے ہیں .

توسل کی قسمیں

توسل کی تین قسمیں ہیں:

۱. نیک اعمال سے توسل؛

جلال الدین سیوطی نے اس آیت (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) کے ذیل میں اس روایت کا ذکر کیا ہے:
عن قتادة ف قوله تعالى "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" قال : تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه (۱)

(۱) سورہ مانہ آیت: ۳۵ .

(۲) تفسیر درالمثور جلد ۲ ص ۲۸۰ مطبوعہ بیروت اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں .

(وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) اس آیت کے متعلق قتادہ کا بیان ہے . کہ خدا کی اطاعت اور اس کو خوشنود کرنے والے عمل کے ذریعہ خدا سے قربت اختیار کرو .

۲. خدا کے نیک بندوں کی دعاؤں سے توسل !

قرآن مجید نے جناب یوسف کے بھائیوں اور جناب یعقوب کی گفتگو کو یوں بیان کیا ہے :

(قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ سَتَعْفِرُ لَكُمْ رَبُّنَا إِنَّهُ بُرِّحِيمٌ) (۱)

ان لوگوں نے کہا بابا جان اب آپ ہمارے گناہوں کیلئے استغفار کریں ہم یقیناً خطاکار تھے انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے حق میں استغفار کروں گا کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے .

اس آیت سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ جناب یعقوب - کے بیٹوں نے اپنے والد کی دعا اور ان کے استغفار سے توسل کیا تھا حضرت یعقوب - نے بھی نہ صرف ان کے توسل پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ ان سے وعدہ بھی کیا کہ وہ ان کے حق میں دعا اور استغفار کریں گے .

.....
(۱)سورہ یوسف آیت نمبر ۹۷ اور ۹۸.

۳. قرب الہی کے حصول کیلئے خداوند کریم کے محترم اور مقدس بندوں سے توسل: اس قسم کے توسل کی مثالیں، اوائل اسلام میں آنحضرتؐ کے اصحاب کی سیرت میں دکھائی دیتی ہیں اب یہاں اس مسئلے کی دلیلوں کو احادیث اور سیرت صحابہ کی روشنی میں پیش کرتے ہیں .

احمدابن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں عثمان بن حنیف سے یہ روایت نقل کی ہے :
إن رجلاً ضریر البصر أتى النبي فقال ادع الله أن يعافين قال: إن شئت دعوت لك و إن شئت أخرجت ذاك فهو خير فقال ادع فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصل ركعتين و يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن أسئلك و أتوجه إليك بنبيك محمد نب الرحمة يا محمد إن توجَّهت بك إلى ربِّ ف حاجت هذه ، فتقض ل اللهم شفَّعة ف. (۱)
ایک نابینا شخص رسول خداؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپؐ پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے شفا بخشے آنحضرت نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لئے دعا کرتا

.....
(۱)مسند احمد بن حنبل ، جلد ۴ ص ۱۳۸ روایات عثمان بن حنیف ، مستدرک حاکم ؛ جلد ۱ کتاب صلوة التطوع طبع بیروت ۳۱۳، سنن ابن ماجہ جلد ۱ ص ۴۱ طبع دار احیاء الکتب العربیہ، "التاج" جلد ۱ ص ۲۸۶، الجامع الصغیر (سیوطی) ص ۵۹، التوسل و الوسیلة (ابن تیمیہ) ص ۹۸ طبع بیروت.

ہوں لیکن اگر چاہو تو اس سلسلے میں کچھ تاخیر کر دی جائے اور یہی بہتر بھی ہے اس نے عرض کیا کہ آپؐ دعا فرمادیں تو پیغمبر خداؐ نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ وضو کو اچھے طریقے سے انجام دے اور پھر دو رکعت نماز بجا لائے اور یہ دعا پڑھے : اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے پیغمبر نبی رحمت حضرت محمدؐ کے وسیلے سے اے محمدؐ میں آپکے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ میری حاجت کو قبول فرمائیں اے معبود ان کو میرے لئے شفیع قرار دے۔
محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جیسا کہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک میں اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ " یہ ایک صحیح حدیث ہے " ابن ماجہ نے بھی ابو اسحاق سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ : " یہ روایت صحیح ہے " اسی طرح ترمذی نے اپنی کتاب "ابواب الادعیہ" میں اس حدیث کے صحیح ہونے کی تائید کی ہے "محمد بن نسیب الرقاعی " نے بھی اپنی کتاب "التوصل الی حقیقة التوسل" میں یوں بیان کیا ہے
لاشک إن هذا الحدیث صحیح و مشہور ...و قد ثبت فیہ بلا شک و لاریب ارتداد بصر الأعمی بدعاء رسول الله ﷺ (۱)

.....
(۱)التوصل الی حقیقة التوسل ص ۱۵۸ طبع بیروت.

بے شک یہ حدیث صحیح اور مشہور ہے... یہ تحقیق اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول خداؐ کی دعا کے نتیجے میں اس اندھے شخص کی بصارت لوٹ آئی تھی اس حدیث سے اچھی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ حاجات کے لئے پیغمبر خداؐ کو وسیلہ بنا کر ان سے توسل کرنا ایک جائز عمل ہے کیونکہ رسول خدا نے اس نابینا شخص کو حکم دیا تھا کہ وہ اس طرح دعا کرے اور حضور (ص) کو اپنے اور پروردگار کے درمیان وسیلہ قرار دے اس طرح یہ حدیث اولیائے الہی سے توسل کو ثابت کرتی ہے .

۲. ابو عبد اللہ بخاری کا اپنی کتاب صحیح میں بیان ہے :
إن عمر بن الخطاب رض الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال : اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فنتسقينا و إننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا: قال، فيسقون. (۱)

جب قحط پڑتا تھا تو عمر ابن خطاب ہمیشہ عباس ابن عبدالمطلب کے وسیلے سے بارش کیلئے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے "خدا یا! پیغمبر کے زمانے میں ہم آنحضرتؐ سے متوسل ہوتے تھے اور تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا اب ہم پیغمبرؐ کے چچا کے وسیلے سے تجھ

.....

(۱) صحیح بخاری جز ۲ کتاب الجمعہ باب الاستسقاء ص ۲۷ طبع مصر.

سے توسل کر رہے ہیں تاکہ تو ہمیں سیراب کر دے " چنانچہ اس طرح وہ سیراب کر دئیے جاتے تھے۔
۳۔ صدر اسلام کے مسلمانوں کے درمیان اولیائے الہی سے توسل اس حد تک رائج تھا کہ وہ لوگ اپنے اشعار میں بھی حضورؐ کے وسیلے ہونے کا تذکرہ کرتے تھے بطور مثال سواد ابن قارب کا یہ قصیدہ ملاحظہ فرمائیں جس میں انہوں نے حضور اکرمؐ کی مدح سرائی کی ہے :

واشهد أن لارَبَّ غيرَه

وأنك مأمون على كل غالب

و أنك أدنى المرسلين وسيلة

إلى الله يابن الأكرمين الأطناب (۱)

میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے اور آپؐ ہر پوشیدہ چیز کے لئے امین ہیں اور اے مکرم اور پاک طینت افراد کے فرزند میں گواہی دیتا ہوں کہ آپؐ تمام نبیوں کے درمیان پروردگار کا نزدیک ترین وسیلہ ہیں۔ پیغمبر خدا نے سواد بن قارب سے یہ قصیدہ سنا تھا لیکن اس کے اشعار پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور نہ ہی سواد کے اس کام کو شرک و بدعت قرار دیا تھا۔

امام شافعی نے بھی اپنے ان اشعار میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے :

آل النبّ ذریعت

هم اليه وسيلت

أرجوهم أعطى غداً

بيد اليمين صحيفت (۲)

.....

(۱) الدر السنیه، مؤلفہ سید احمد بن زینی دحلان ص ۲۹ طبرانی سے نقل کرتے ہوئے۔

(۲) الصواعق المحرقة، مؤلفہ ابن حجر عسقلانی ص ۱۷۸ طبع قاہرہ۔

پروردگار تک پہنچنے کے لئے پیغمبر کی آل میرے لئے وسیلہ ہیں میں ان کی وجہ سے امیدوار ہوں کہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

اولیائے الہی سے توسل کے جائز ہونے کے سلسلے میں بہت سی روایات آئی ہیں اور انہی روایات کی روشنی میں پیغمبر خداؐ صحابہ اور علمائے اسلام کا اس موضوع سے متعلق نظریہ معلوم ہوجاتا ہے اور مزید گفتگو کی چنداں ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ہمارے اسی بیان سے ان لوگوں کا یہ کلام کہ خدا کے محترم بندوں سے توسل کرنا شرک اور بدعت ہے، باطل ہوجاتا ہے۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

چھبیسواں سوال

کیا اولیائے خدا کی ولادت کے موقع پر جشن منانا بدعت یا شرک ہے؟

جواب: خدا کے نیک بندوں کی یاد منانا اور ان کی ولادت کے موقعے پر جشن منانا، عقلاء کی نظر میں ایک واضح مسئلہ ہے لیکن پھر بھی ہم اس عمل کے جائز ہونے کی دلیلیں اس لئے پیش کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہ جائے۔

۱۔ ان کی یاد منانے میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔

قرآن مجید نے مسلمانوں کو پیغمبر خداؐ اور ان کے اہل بیتؑ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے:
(قُلْ لَأَسْأَلَنَّكُمْ عَلَيْهِ جَزَاءً لَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) (۱)

.....

(۱) سورہ شوریٰ آیت: ۲۳

(اے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔

اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمان اولیاء خدا کی یاد منانا ان سے اپنی اس محبت و الفت کا اظہار کرتے ہیں جس کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے۔

۲۔ پیغمبر اکرمؐ کی یاد منانا آنحضرتؐ کی تعظیم کا اظہار ہے

قرآن مجید نے رسول خدا کی نصرت کرنے کے علاوہ آپ کے احترام کو بھی کامیابی اور سعادت کا معیار قرار دیا ہے۔
(فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي نَزَلَ مَعَهُ ۗ وَلَيْكَ بِمُ الْمُفْلِحُونَ) (۱)

پس جو لوگ پیغمبر پر ایمان لائے اور ان کا احترام کیا، ان کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے وہی درحقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔

گزشتہ آیت کی روشنی میں بخوبی معلوم ہوجاتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں پیغمبر اکرمؐ کا احترام انتہائی پسندیدہ کام ہے اور ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے اور ان کے بلند مقام کی تعظیم کے لئے جشن منانا خداوند عالم کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے کیونکہ اس آیت میں

.....

(۱) سورہ اعراف آیت: ۱۵۷

فلاح یافتہ لوگوں کے لئے چار صفات ذکر کی گئی ہیں:

الف: ایمان (الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ) وہ لوگ نبیؐ پر ایمان لائے۔

ب: ان کے نور کی پیروی (وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي نَزَلَ مَعَهُ) اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔

ج: ان کی نصرت کرنا (وَنَصَرُوهُ) اور انہوں نے ان کی نصرت کی۔

د: پیغمبر اکرمؐ کی تعظیم (وَعَزَّرُوهُ) اور ان کا احترام کیا۔

اس اعتبار سے پیغمبر اکرمؐ پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے اور ان کے دئیے ہوئے احکام کی پیروی کرنے کے علاوہ آنحضرتؐ کا احترام اور آپؐ کی تعظیم بھی ایک ضروری امر ہے اس لحاظ سے حضور سرور کائناتؐ کی یاد کو باقی رکھنا "وَعَزَّرُوهُ" کے امر کا امتثال ہے۔

۳۔ انکی یاد منانے میں خداوند عالم کی پیروی ہے۔

خداوند عالم قرآن مجید میں پیغمبر اکرمؐ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

(وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) (۱)

اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔

اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوجاتا ہے کہ خداوندعالم یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ

.....

(۱)سورہ انشراح آیت ۴

کی عظمت و جلال کو اس دنیا میں پھیلا دے اور خود ذات کردگار نے بھی قرآن مجید میں آنحضرتؐ کی تعظیم کی ہے اس لئے ہم بھی قرآن مجید کی پیروی کرتے ہوئے پیغمبر اکرمؐ جو کہ اسوہ کمال و فضیلت ہیں کی یاد منا کر ان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس طرح پروردگار عالم کی پیروی کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ مسلمانوں کا ان محافل کو منعقد کرنے کا مقصد پیغمبر اکرمؐ کے ذکر کو بلند کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

۴.وحی کا نازل ہونا دسترخوان کے نازل ہونے سے کم نہیں ہے

قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ - کی دعا کو یوں بیان کیا ہے:

(قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا نَزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِيَانَا وَأَجْرِنَا وَأَيَّةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (۱)

عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے خدا! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے عید ہوجائے اور تیری طرف سے نشانی بن جائے .

حضرت عیسیٰ - نے خداوندعالم سے درخواست کی تھی کہ ان پر آسمان سے ایک

.....

(۱)سورہ ماندہ آیت : ۱۱۴

دسترخوان نازل کیا جائے تاکہ اس کے نازل ہونے کا دن ان کیلئے عید بن جائے .

اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب خدا کے ایک نبی کی نگاہ میں دسترخوان (جس سے جسمانی لذت حاصل ہوتی ہے) کے نازل ہونے کا دن عید ہے تو اب اگر دنیا کے مسلمان وحی کے نازل ہونے اور (پیغمبر اکرمؐ جو انسانوں کی بخشش کا ذریعہ اور حیات ابدی کا سرچشمہ ہیں) کی ولادت با سعادت کے دن کو عید قرار دیتے ہوئے اس دن جشن منائیں اور محفلیں منعقد کریں تو کیا یہ شرک یا بدعت ہوجائے گا؟!

۵- مسلمانوں کی سیرت

دین اسلام کے پیرو پیغمبر اکرمؐ کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لئے مدتوں سے اس قسم کی جشن منعقد کرتے آ رہے ہیں اس سلسلے میں حسین بن محمد دیاربکری اپنی کتاب "تاریخ الخمیس" میں یوں لکھتے ہیں :
"ولایزال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام و يعملون الولائم و يتصدقون ف ليا ليه بأنواع الصدقات و يظهرون السرور و يزيدون ف المبرات و يعتنون بقراءة مولده الكريم و يظهر عليهم من برکاته کل فضل عمیم" (۱)

.....

(۱) حسین بن محمد بن حسن دیاربکری ، تاریخ الخمیس جلد ۱ ص ۲۲۳ طبع بیروت.

دنیا کے مسلمان ہمیشہ سے پیغمبر اکرمؐ کی ولادت کے مہینے میں جشن کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس مہینے کی راتوں میں طرح طرح کے صدقے دیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیکیاں انجام دیتے ہیں وہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی ولادت کی مناسبت سے قصیدے پڑھتے ہیں اور ان کی برکت سے ان پر ہر قسم کے فضل ظاہر ہوتے ہیں .

اس بیان سے واضح ہوجاتا ہے کہ قرآن اور مسلمانوں کی نگاہ میں اولیائے خدا کی یاد منانا ایک پسندیدہ اور جائز عمل ہے اور ساتھ ہی ساتھ اولیائے خدا کی یاد منانا اور اسی طرح یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ وہ لوگ جو اولیائے خدا کی یاد منانے کو شرک سمجھتے ہیں ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور بے دلیل ہے اور اسی کے ساتھ اولیاء خدا کی یاد منانے کو بدعت سمجھنے والے لوگوں کا نظریہ بھی باطل ہوجاتا ہے کیونکہ یہ فعل اس وقت بدعت قرار پاتا جب اس عمل کا جائز ہونا ،

خصوصی یا عمومی طور پر قرآن و سنت سے ثابت نہ ہوتا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کلی طور پر اس مسئلہ کا حکم موجود ہے اور مسلمانوں کی سیرت میں بھی اس کے نقوش ملتے ہیں .
اسی طرح یہ محفلیں خدا کے نیک بندوں کو خدا کی مخلوق اور اس کا محتاج سمجھتے ہوئے صرف ان کے احترام کی خاطر منعقد کی جاتی ہیں.
اس اعتبار سے یہ عمل توحید سے مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ وہ لوگ جو اولیائے خد
اکی یاد منانے کو شرک سمجھتے ہیں ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور بے دلیل ہے۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

ستائیسواں سوال

شیعہ پانچ نمازوں کو تین اوقات میں کیوں پڑھتے ہیں؟

جواب: بہتر ہے کہ اس بحث کی وضاحت کے لئے سب سے پہلے اس بارے میں فقہاء کے نظریات بیان کردئیے جائیں :
۱۔ سارے اسلامی فرقے اس مسئلہ پر متفق ہیں کہ میدان " عرفات" میں ظہر کے وقت نماز ظہر اور نماز عصر کو اکٹھا اور بغیر فاصلے کے پڑھا جاسکتا ہے اسی طرح "مزدلفہ" میں عشا کے وقت نماز مغرب اور عشا کو ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے

۲۔ حنفی فرقہ کا کہنا ہے کہ : نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو اکٹھا ایک وقت میں پڑھنا صرف دو ہی مقامات "میدان عرفات" اور "مزدلفہ" میں جائز ہے اور باقی جگہوں پر اس طرح ایک ساتھ نمازیں نہ پڑھی جائیں .
۳۔ حنبلی، مالکی اور شافعی فرقوں کا کہنا ہے کہ: نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو ان گزشتہ دو مقامات کے علاوہ سفر کی حالت میں بھی ایک ساتھ ادا کیا جاسکتا ہے ان فرقوں میں سے کچھ لوگ بعض اضطراری موقعوں جیسے بارش کے وقت یا نمازی کے بیمار ہونے پر یا پھر دشمن کے ڈر سے ان نمازوں کو ساتھ میں پڑھنا جائز قرار دیتے ہیں
(۱)

۴۔ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز ظہر و عصر اور اسی طرح نماز مغرب و عشاء کے لئے ایک "خاص وقت" ہے اور ایک "مشترک وقت"۔

الف: نماز ظہر کا خاص وقت شرعی ظہر (زوال آفتاب) سے لیکر اتنی دیر تک ہے جس میں چار رکعت نماز پڑھی جاسکے

ب: نماز عصر کا مخصوص وقت وہ ہے کہ جب غروب آفتاب میں اتنا وقت باقی بچا ہو کہ اس میں چار رکعت نماز پڑھی جاسکے۔

ج: نماز ظہر و عصر کا مشترک وقت نماز ظہر کے مخصوص وقت کے ختم ہونے اور نماز عصر کے مخصوص وقت کے شروع ہونے تک ہے۔

شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام مشترک اوقات میں نماز ظہر و عصر کو اکٹھا اور فاصلے کے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کہتے ہیں : کہ نماز ظہر کا مخصوص وقت، شرعی ظہر (زوال آفتاب) سے لیکر اس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہوجائے اس وقت میں نماز عصر نہیں پڑھی جاسکتی اور اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک نماز عصر کا مخصوص وقت ہے اس وقت میں نماز ظہر نہیں پڑھی جاسکتی۔
د: نماز مغرب کا مخصوص وقت شرعی مغرب کی ابتدا سے لے کر اس وقت تک ہے

(۱) "الفقه علی المذاهب الاربعہ" کتاب الصلوٰۃ الجمع بین الصلا تین تقدیمًا و تاخیرًا ، سے اقتباس

کہ جس میں تین رکعت نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ اس وقت میں صرف نماز مغرب ہی پڑھی جاسکتی ہے۔
ہ: نماز عشاء کا مخصوص وقت یہ ہے کہ جب آدھی رات میں صرف اتنا وقت رہ جائے کہ اس میں چار رکعت نماز پڑھی جاسکے تو اس کو تاہ وقت میں صرف نماز عشاء ہی پڑھی جائے گی۔
و: مغرب و عشاء کی نمازوں کا مشترک وقت نماز مغرب کے مخصوص وقت کے ختم ہونے سے لے کر نماز عشاء کے مخصوص وقت تک ہے۔

شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مشترک وقت کے اندر مغرب و عشاء کی نمازیں ایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے ادا کی جاسکتی ہیں لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب کا مخصوص وقت غروب آفتاب سے لے کر مغرب کی سرخی زائل ہونے تک ہے اور اس وقت میں نماز عشاء نہیں پڑھی جاسکتی پھر مغرب کی سرخی کے زائل ہونے سے لیکر آدھی رات تک نماز عشاء کا خاص وقت ہے اور اس وقت میں نماز مغرب ادا نہیں کی جاسکتی۔

نتیجہ: یہ نکلتا ہے کہ شیعوں کے نظریے کے مطابق شرعی ظہر کا وقت آجانے پر نماز ظہر بجالانے کے بعد بلافاصلہ نماز عصر ادا کرسکتے ہیں نماز ظہر کو اس وقت نہ پڑھ کر نماز عصر کے خاص وقت تک پڑھتے ہیں۔ اس طرح کہ نماز ظہر کو نماز عصر کے خاص وقت کے پہنچنے سے پہلے ختم کردیں اور اس کے بعد نماز عصر پڑھ لیں اس طرح نماز ظہر و عصر کو جمع کیا جاسکتا ہے اگرچہ مستحب یہ ہے کہ نماز ظہر کو زوال کے بعد ادا کیا جائے اور نماز عصر کو اس وقت ادا کیا جائے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔

اسی طرح شرعی مغرب کے وقت نماز مغرب کے بجالانے کے بعد بلا فاصلہ نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں یا پھر اگر چاہیں تو نماز مغرب کو نماز عشاء کے خاص وقت کے قریب پڑھیں وہ اس طرح کہ نماز مغرب کو نماز عشاء کے خاص وقت کے پہنچنے سے پہلے ختم کردیں اور اس کے بعد نماز عشاء پڑھ لیں اس طرح نماز مغرب و عشاء کو ساتھ میں پڑھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ مستحب یہ ہے کہ نماز مغرب کو شرعی مغرب کے بعد ادا کیا جائے اور نماز عشاء کو مغرب کی سرخی کے زائل ہوجانے کے بعد بجالایا جائے یہ شیعوں کو نظریہ تھا۔

لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ نماز ظہر و عصر یا مغرب و عشاء کو کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت میں ایک ساتھ ادا کرنا صحیح نہیں ہے اس اعتبار سے بحث اس میں ہے کہ کیا ہر جگہ اور ہر وقت میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاسکتی ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے میدان عرفہ اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھا جاتا ہے۔
۵۔ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی تھیں لیکن اس روایت کی تفسیر میں دو نظریے پائے جاتے ہیں :

الف: شیعہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے مراد یہ ہے کہ نماز ظہر کے ابتدائی وقت میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز عصر کو بجالایا جاسکتا ہے اور اسی طرح نماز مغرب کے ابتدائی وقت میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز عشاء کو پڑھا جاسکتا ہے اور یہ مسئلہ کسی خاص وقت اور کسی خاص جگہ یا خاص حالات سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت میں ایک ساتھ دو نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں۔

ب: اہل سنت کہتے ہیں مذکورہ روایت سے مراد یہ ہے کہ نماز ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور نماز عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے اور اسی طرح نماز مغرب کو اس کے آخری وقت میں اور نماز عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔

اب ہم اس مسئلے کی وضاحت کے لئے ان روایات کی تحقیق کر کے یہ ثابت کریں گے کہ ان روایات میں دو نمازوں کو جمع کرنے سے وہی مراد ہے جو شیعہ کہتے ہیں۔ یعنی دو نمازوں کو ایک ہی نماز کے وقت میں پڑھا جاسکتا ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے :

روایات میں دو نمازوں کے ایک ہی ساتھ پڑھنے کا تذکرہ

۱۔ احمد ابن حنبل نے اپنے کتاب مسند میں جابر بن زید سے روایت کی ہے

أخبرن جابر بن زید أنه سمع ابن عباس يقول: صلّيت مع رسول الله ﷺ ثمانينًا جميعًا، و سبغًا جميعًا قال قلت له يا أبا الشعثاء أظنّه أحرّ الظهر و عجلّ العصر و أحرّ المغرب و عجلّ العشاء قال وأنا أظن ذلك. (۱)

جابر بن زید کا بیان ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے : میں نے پیغمبر اکرم ﷺ کے ساتھ آٹھ رکعت نماز (ظہر و عصر) اور سات رکعت نماز (مغرب و عشاء) کو ایک ساتھ پڑھا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ابوشعنا سے کہا: میرا یہ گمان ہے کہ رسول خدا ﷺ نے نماز ظہر کو تاخیر سے پڑھا ہے اور نماز عصر کو جلد ادا کیا ہے اسی طرح نماز مغرب کو بھی تاخیر سے پڑھا ہے اور نماز عشاء کو جلدی ادا کیا ہے ابوشعنا نے کہا میرا بھی یہی گمان ہے . اس روایت سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے پڑھا تھا .

۲. احمد ابن حنبل نے عبداللہ بن شقیق سے درج ذیل روایت نقل کی ہے :

"خطبنا ابن عباس یوماً بعد العصر حتی غربت

الشمس و بدت النجوم و علق الناس ینادونہ

الصلاة و ف القوم رجل من بن تمیم فجعل یقول:

الصلاة الصلاة : قال فغضب قال أتعلمن بالسنة؟

شهدت رسول اللہ ﷺ جمع بین الظہر و العصر

والمغرب و العشاء . قال عبداللہ فوجدت ف

نفس من ذلك شیئاً فلقیت أباهریرة فسألته

فوافقہ" (۱)

ایک دن عصر کے بعد ابن عباس نے ہمارے درمیان خطبہ دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے اور لوگ نماز کی ندائیں دینے لگے ان میں سے بنی تمیم قبیلے کا ایک شخص "نماز " "نماز " کہنے لگا ابن عباس نے غصے میں کہا کیا تم مجھے سنت پیغمبر کی تعلیم دینا چاہتے ہو؟ میں نے خود رسول خدا ﷺ کو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے دیکھا ہے عبداللہ نے کہا اس مسئلے سے متعلق میرے ذہن میں شک پیدا ہو گیا تو میں ابوہریرہ کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے ابن عباس کی بات کی تائید کی .

اس حدیث میں دو صحابی "عبداللہ ابن عباس" اور "ابوہریرہ" اس حقیقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھا ہے اور ابن عباس نے بھی پیغمبر اکرم ﷺ کے اس عمل کی پیروی کی ہے .

۳. مالک بن انس کا اپنی کتاب "موطأ" میں بیان ہے:

صلیٰ رسول اللہ ﷺ الظہر و العصر جمیعاً و المغرب و العشاء جمیعاً ف غیر خوف ولا سفر (۱)

رسول خدا ﷺ نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی تھیں جبکہ نہ تو کسی قسم کا خوف تھا اور نہ ہی آپ ﷺ سفر میں تھے .

۴. مالک بن انس نے معاذ بن جبل سے یہ روایت نقل کی ہے :

فکان رسول اللہ ﷺ یجمع بین الظہر و العصر و المغرب و العشاء (۱)

رسول خدا ﷺ نماز ظہر عصر اور نماز مغرب و عشاء کو ایک ساتھ بجالاتے تھے .

۵. مالک بن انس نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے یوں روایت نقل کی ہے :

کان رسول اللہ ﷺ إذا عجل بہ السیر یجمع بین المغرب و العشاء (۲)

جس وقت رسول خداؐ کو کوئی مسافت جلدی طے کرنی ہوتی تو وہ مغرب و عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ بجالاتے تھے .
۶۔ مالک ابن انس نے ابوہریرہ سے یوں روایت نقل کی ہے :

.....

(۱) موطاً مالک کتاب الصلوٰۃ صفحہ ۱۳۴ حدیث ۱۷۶ طبع ۳ بیروت سال طبع ۱۴۰۳ھ . صحیح مسلم طبع مصر جز ۲ صفحہ ۱۵۲ .
(۲) موطاً مالک کتاب الصلوٰۃ ص ۱۲۵ حدیث ۱۷۷ .

ن رسول اللہؐ کان یجمع بین الظهر والعصر ف سفره الى تبوك (۱)
پیغمبر اکرمؐ نے تبوک کے راستے میں ظہر و عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں .
۷۔ مالک نے اپنی کتاب موطاً میں نافع سے یوں روایت نقل کی ہے :
ن عبدالله بن عمر کان اذا جمع الأمراء بین المغرب والعشاء ف المطر جمع معهم (۲)
جب بھی بارش کے دوران حکام مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھتے تھے تو عبداللہ بن عمر بھی ان کے ساتھ اپنی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے .

۸۔ مالک ابن انس نے علی بن حسین سے یوں نقل کیا ہے :
کان رسول اللہؐ اذا أراد أن یسیر یومہ جمع بین الظهر والعصر و إذا أراد أن یسیر لیلہ جمع بین المغرب والعشاء (۳)

.....

(۱) موطاً مالک کتاب الصلوٰۃ ص ۱۲۴ حدیث ۱۷۵ .
(۲) موطاً مالک کتاب الصلوٰۃ ص ۱۲۵ حدیث ۱۷۹ .
(۳) موطاً مالک، کتاب الصلوٰۃ ص ۱۲۵ حدیث ۱۸۱ .

پیغمبر اکرمؐ جب دن میں سفر کرنا چاہتے تھے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا ادا کر لیا کرتے تھے اور جب رات میں سفر کرنا ہوتا تھا تو مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے تھے .
۹۔ محمد زرقانی نے موطاً کی شرح میں ابن شعنا سے یوں روایت نقل کی ہے
إن ابن عباس صلی بالبصرة الظهر والعصر لیس بینہما شء والمغرب والعشاء لیس بینہما شء (۱)
بے شک ابن عباس نے بصرہ میں نماز ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے پڑھا تھا اور اسی طرح نماز مغرب و عشاء کو بھی اکٹھا اور بغیر فاصلے کے بجالاتے تھے
۱۰۔ زرقانی نے طبرانی سے اور انہونے ابن مسعود سے نقل کیا ہے :
جمع النبیینؐ بین الظهر والعصر و بین المغرب والعشاء فقیل لہ ف ذلک فقال : صنعت هذا لئلا تخرج أمت (۲)
پیغمبر اکرمؐ نے جب نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھا تو آنحضرتؐ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا

.....

(۱) موطاً زرقانی کی شرح ، جز اول باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر والسفر ص ۲۹۴ طبع مصر .
(۲) گزشتہ حوالہ .

جواب میں آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اس عمل کو اس لئے انجام دیا ہے تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے .
۱۱۔ مسلم بن حجاج نے ابوہریرہ سے اور انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے یوں روایت نقل کی ہے :
صلى رسول اللهؐ بين الظهر والعصر جميعاً بالمدينة ف غير خوف ولا سفر (۱)
پیغمبر اکرمؐ نے مدینہ منورہ میں بغیر خوف و سفر کے نماز ظہر و عصر کو ایک ساتھ پڑھا تھا .
اس کے بعد ابن عباس نے پیغمبر اکرمؐ کے اس عمل کے بارے میں کہا کہ :
آنحضرتؐ چاہتے تھے کہ ان کی امت میں سے کوئی بھی شخص مشقت میں نہ پڑنے پائے (۲)
۱۲۔ مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے یوں روایت نقل کی ہے :
جمع رسول اللہؐ بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء ف المدينة من غير خوف

.....
(۱) صحیح مسلم جزء ۲ ص ۱۵۱ باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، طبع مصر .
(۲) یہ مطلب گزشتہ کتاب میں اسی حدیث کے ذیل میں مذکور ہے۔

ولامطر. (۱)

پیغمبر اکرمؐ نے مدینہ منورہ میں بغیر خوف اور بارش کے نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو اکھٹا پڑھا تھا۔ اس وقت سعید ابن جبیر نے ابن عباس سے پوچھا کہ پیغمبر اکرمؐ نے اس طرح کیوں کیا؟ تو ابن عباس نے کہا آنحضرتؐ اپنی امت کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ (۲)

۱۳۔ ابو عبد اللہ بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس سلسلے میں "باب تأخیر الظہر الی العصر" کے نام سے ایک مستقل باب قرار دیا ہے۔ (۳)

یہ خود عنوان اس بات کا بہترین گواہ ہے کہ نماز ظہر میں تاخیر کر کے اسے نماز عصر کے وقت میں اکھٹا بجالایا جاسکتا ہے اس کے بعد بخاری نے اسی مذکورہ باب میں درج ذیل روایت نقل کی ہے :
نَ النَّبِ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَ ثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ (۴)

.....
(۱) گزشتہ حوالہ، صفحہ نمبر ۱۵۲ .

(۲) یہ مطلب گزشتہ کتاب کے صفحہ ص ۱۵۲ میں اسی حدیث کے ذیل میں مذکور ہے .

(۳) صحیح بخاری جز اول ص ۱۱۰ کتاب الصلوٰۃ باب تأخیر الظہر الی العصر طبع مصر نسخہ امیریہ ۱۳۱۴ھ.

(۴) گزشتہ حوالہ.

بہ تحقیق پیغمبر اکرمؐ نے مدینہ میں سات رکعت (نماز مغرب و عشاء) اور آٹھ رکعت (نماز ظہر و عصر) پڑھی ہیں . اس روایت سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ جس طرح نماز ظہر میں تاخیر کر کے اسے نماز عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ بجالایا جاسکتا ہے، اسی طرح سیاق حدیث میں موجود قرینہ اور پیغمبر اکرمؐ کی سیرت سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز مغرب میں بھی دیر کر کے اسے نماز عشاء کے وقت میں نماز عشاء کے ساتھ بجالایا جاسکتا ہے .
۱۴۔ بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں ایک اور مقام پر لکھا ہے :

قال ابن عمر و أبو أيوب و ابن عباس رض الله عنهم صَلَّى النَّبِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ (۱)
عبد اللہ بن عمر و ابوایوب انصاری اور عبد اللہ بن عباس نے کہا ہے کہ : پیغمبر خداؐ نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا ہے۔

بخاری اس حدیث سے مسلم طور پر یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ پیغمبر اکرمؐ نے نماز مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھا تھا کیونکہ یہ تو یقینی ہے کہ بخاری ہرگز اس حدیث کے ذریعے حضورؐ کے نمازی ہونے کو ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے .

.....
(۱) صحیح بخاری جز اول کتاب الصلوٰۃ باب ذکر العشاء ص ۱۱۳ طبع مصر ۱۳۱۴ھ.

۱۵۔ مسلم بن حجاج نے اپنی کتاب صحیح میں بیان کیا ہے :

قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة و كنا نجمع بين الصلاة على عهد رسول الله. (۱)

ایک شخص نے ابن عباس سے کہا : "نماز" تو ابن عباس نے کچھ نہ کہا اس شخص نے پھر کہا "نماز" پھر بھی ابن عباس نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو اس شخص نے پھر کہا "نماز" لیکن ابن عباس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا جب اس شخص نے چوتھی مرتبہ کہا: "نماز" تب ابن عباس بولے او بے اصل! تم ہمیں نماز کی تعلیم دینا چاہتے ہو ؟ جبکہ ہم پیغمبر خداؐ کے زمانے میں دو نمازوں کو ایک ساتھ بجالایا کرتے تھے .

۱۶۔ مسلم نے یوں روایت نقل کی ہے :

إن رسول الله جمع بين الصلاة ف سفرها ف غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال سعيد فقلت:

لابن عباس:

.....

(۱) صحیح مسلم جز ۲ ص ۱۵۳ باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر

ما حملہ علیٰ ذلک؟ قال أراد أن لا یخرج أمتہ (۱)
پیغمبر خداؐ نے غزوہ تبوک کے سفر میں نمازوں کو جمع کر کے نماز ظہر و عصر اور مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھا تھا
سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے آنحضرتؐ کے اس عمل کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا
آنحضرتؐ چاہتے تھے کہ ان کی امت مشقت میں نہ پڑے۔
۱۷۔ مسلم ابن حجاج نے معاذ سے اس طرح نقل کیا ہے:

خرجنا مع رسول اللہ ﷺ غزوة تبوک فکان یصلّ الظهر والعصر جمعاً والمغرب والعشاء جمعاً. (۲)
ہم پیغمبر خداؐ کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف نکلے تو آنحضرتؐ نے نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو ایک
ساتھ پڑھا۔

۱۸۔ مالک ابن انس کا اپنی کتاب "الموطأ" میں بیان ہے کہ:

عن ابن شہاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم

.....

(۱) صحیح مسلم جز ۲ ص ۱۵۱ طبع مصر

(۲) گزشتہ حوالہ

لابأس بذلك، ألم تر إلى الصلاة الناس بعرفة؟ (۱)

ابن شہاب نے سالم بن عبد اللہ سے سوال کیا کہ کیا حالت سفر میں نماز ظہر و عصر کو ایک ساتھ بجالایا جاسکتا تھا؟ سالم
بن عبد اللہ نے جواب دیا ہاں اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے کیا تم نے عرفہ کے دن لوگوں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے؟
یہاں پر اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ عرفہ کے دن نماز ظہر و عصر کو نماز ظہر کے وقت میں بجالانے کو سب
مسلمان جائز سمجھتے ہیں اس مقام پر سالم بن عبد اللہ نے کہا تھا کہ جیسے لوگ عرفہ کے دن دو نمازوں کو اکٹھا پڑھتے
ہیں اسی طرح عام دنوں میں بھی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا جاسکتا ہے۔

۱۹۔ متقی ہندی اپنی کتاب "کنز العمال" میں لکھتے ہیں:

قال عبد الله: جمع لنا رسول الله ﷺ مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال رجل لابن عمر: لم ترى النبي ﷺ فعل
ذلک؟ قال: لأن لا یخرج أمتہ ان جمع رجل. (۲)

.....

(۱) موطأ مالک ص ۱۲۵ حدیث ۱۸۰ طبع ۳، بیروت.

(۲) کنز العمال کتاب الصلوة، باب الرابع فی صلاة المسافر باب جمع جلد ۸ ص ۲۴۶ طبع ۱ حلب ۱۳۹۱ھ.

عبد الله ابن عمر نے کہا: کہ پیغمبر خداؐ نے بغیر سفر کے نماز ظہر
و عصر اور مغرب و عشاء کو اکٹھا پڑھا تھا ایک شخص نے ابن عمر سے سوال کیا کہ پیغمبر اکرمؐ نے ایسا کیوں کیا؟ تو
ابن عمر نے جواب دیا کہ آنحضرتؐ اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ اگر کوئی شخص چاہے تو دو نمازوں
کو ایک ساتھ بجالائے۔

۲۰۔ اسی طرح کنز العمال میں یہ روایت بھی موجود ہے:

عن جابر أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (۱)

نبی اکرمؐ نے ظہر و عصر کی نمازوں کو اکٹھا ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھا تھا۔

۲۱۔ کنز العمال میں درج ذیل روایت بھی موجود ہے:

عن جابر أن رسول الله ﷺ غربت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف (۲)

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ مکہ میں ایک دفعہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو رسول خداؐ نے "سرف" (۳) کے مقام پر نماز

مغرب و عشاء کو اکھٹا پڑھا تھا۔

.....

(۱) کنز العمال کتاب الصلوة ، الباب الرابع فی صلوة المسافر باب جمع جلد ۸ ص ۲۴۷ طبع ۱ حلب۔

(۲) گزشتہ حوالہ۔

(۳) سرف مکہ سے نومیل کے فاصلے پر واقع مقام کا نام ہے (یہ بات کنز العمال سے اسی حدیث کے ذیل سے ماخوذ ہے)

۲۲ کنز العمال میں ابن عباس سے یوں منقول ہے :

جمع رسول اللہ ﷺ بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة ف غیر سفر ولا مطر قال : قلت لابن عباس : لم تراہ فعل ذلک؟ قال: أراد التوسعة علی أمتہ (۱)

پیغمبر خدا نے مدینہ میں بغیر سفر اور بارش کے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو اکھٹا پڑھا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا آنحضرتؐ کے اس عمل کے سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو ابن عباس نے جواب دیا آنحضرتؐ اپنی امت کے لئے سہولت اور آسانی قرار دینا چاہتے تھے۔

نتیجہ:

اب ہم گزشتہ روایات کی روشنی میں دو نمازوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں شیعوں کے نظریہ کے صحیح ہونے پر چند دلیلیں پیش کریں گے:

۱۔ دو نمازوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ بجالانے کی اجازت نمازیوں کی سہولت اور انہیں مشقت سے بچانے کے لئے دی گئی ہے۔

متعدد روایات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر نماز ظہر و عصر یا مغرب و

.....

(۱) کنز العمال، کتاب الصلوة ، الباب الرابع ، باب جمع جلد ۸۔

عشاء کو ایک وقت میں بجالانا جائز نہ ہوتا تو یہ امر مسلمانوں کے لئے زحمت و مشقت کا باعث بنتا اسی وجہ سے پیغمبر اسلامؐ نے مسلمانوں کی سہولت اور آسانی کے لئے دو نمازوں کو ایک وقت میں بجالانے کو جائز قرار دیا ہے (اس سلسلے میں دسویں ، سولہویں ، انیسویں ، اور بائیسویں حدیث کا مطالعہ فرمائیے)

واضح ہے کہ اگر ان روایات سے یہ مراد ہو کہ نماز ظہر کو اسکے آخری وقت (جب ہر چیز کا سایہ اسکے برابر ہو جائے) تک تاخیر کر کے پڑھا جائے اور نماز عصر کو اسکے اول وقت میں بجالایا جائے اس طرح ہر دو نمازیں ایک ساتھ مگر اپنے اوقات ہی میں پڑھی جائیں (اہل سنت حضرات ان روایات سے یہی مراد لیتے ہیں) تو ایسے کام میں کسی طرح کی سہولت نہیں ہوگی بلکہ یہ کام مزید مشقت کا باعث بنے گا جبکہ دو نمازوں کو ایک ساتھ بجالانے کی اجازت کا یہ مقصد تھا کہ نماز یونکیلتے سہولت ہو۔

اس بیان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ گزشتہ روایات سے مراد یہ ہے کہ دو نمازوں کو ان کے مشترک وقت کے ہر حصے میں بجالایا جاسکتا ہے اب نماز گزار کو اختیار ہے کہ وہ مشترک وقت کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھے یا اس کے آخری حصے میں اور ان روایات سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔

۲۔ روز عرفہ دو نمازوں کو اکھٹا پڑھنے کے حکم سے باقی دنوں میں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا جواز معلوم ہوتا ہے تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک عرفہ کے دن ظہر و عصر کی نمازوں کو ایک وقت میں بجالانا جائز ہے (۱)

مزید براں گزشتہ روایات میں سے بعض اس بات کی گواہ ہیں کہ میدان عرفات کی طرح باقی مقامات پر بھی نمازوں کو اکھٹا بجالایا جاسکتا ہے اب اس اعتبار سے روز عرفہ اور باقی عام دنوں کے درمیان یا عرفات کی سرزمین اور باقی عام جگہوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس سلسلہ میں اٹھارویں حدیث کا مطالعہ فرمائیے۔

لہذا جس طرح مسلمانوں کے متفقہ نظرئیے کے مطابق عرفہ میں ظہر و عصر کی نمازوں کو ظہر کے وقت پر ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے اسی طرح عرفہ کے علاوہ بھی ان نمازوں کو ظہر کے وقت اکھٹا پڑھنا بالکل صحیح ہے۔

۳۔ سفر کی حالت میں دو نمازوں کو اکھٹا پڑھنے کے حکم سے غیر سفر میں بھی نمازوں کے ایک ساتھ بجالانے کا جواز

معلوم ہوتا ہے۔ ایک طرف سے حنبلی، مالکی، اور شافعی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حالت سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا بجالایا جاسکتا ہے اور دوسری طرف گزشتہ روایات صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اس اعتبار سے سفر اور غیر سفر میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ پیغمبر اکرمؐ نے دونوں حالتوں میں نمازوں کو اکٹھا پڑھا تھا۔ (اس سلسلے میں تیسری، گیارہویں، تیرہویں، اور بائیسویں حدیث کا مطالعہ فرمائیں) اس بنیاد پر (شیعوں کے نظریے کے مطابق) جس طرح حالت سفر میں دو

.....

(۱) الفقه علی المذاهب الاربعہ ، کتاب الصلوۃ ، الجمع بین الصلوٰتین تقدیما و تاخیرا .

نمازوں کو اکٹھا بجالانا صحیح ہے اسی طرح عام حالات میں بھی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا جاسکتا ہے .
 ۴۔ اضطراری حالت میں دو نمازوں کے اکٹھا پڑھنے کے حکم سے عام حالت میں بھی نمازوں کے اکٹھا پڑھنے کا جواز معلوم ہوجاتا ہے۔ اہل سنت کی صحیح اور مسند کتابوں میں سے بہت سی روایات اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ اور ان کے اصحاب نے چند اضطراری موقعوں پر جیسے بارش کے وقت یا دشمن کے خوف سے یا بیماری کی حالت میں نمازوں کو ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں (ٹھیک اسی طرح جیسے شیعہ کہتے ہیں) پڑھا تھا اور اسی وجہ سے مختلف اسلامی فرقوں کے فقہاء نے بعض اضطراری حالات میں دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز قرار دیا ہے جب کہ گزشتہ روایات اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ اس سلسلے میں اضطراری اور عام حالت میں کوئی فرق نہیں ہے . اور پیغمبر اکرمؐ نے دونوں حالتوں میں اپنی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا ہے .

اس سلسلے میں تیسری، گیارہویں ، اور بارہویں ، اور بائیسویں روایت کا مطالعہ کیجئے
 ۵۔ اصحاب پیغمبرؐ کی روش سے دو نمازوں کے ایک ساتھ بجالانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔
 گزشتہ روایات میں یہ نکتہ موجود ہے کہ آنحضرتؐ کے بہت سے اصحاب دو نمازوں کو ایک وقت میں بجالاتے تھے جیسے کہ عبداللہ ابن عباس نے نماز مغرب میں اتنی دیر کردی تھی کہ اندھیرا چھا گیا تھا اور آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے اور لوگوں نے نماز کی صدائیں دینا شروع کردی تھیں مگر ابن عباس نے ان کی طرف توجہ نہیں کی تھی سرانجام جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تب انہوں نے نماز مغرب و عشاء پڑھی تھی۔ اور اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا تھا : میں نے پیغمبر اسلامؐ کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے نیز ابوہریرہ نے بھی ابن عباس کی اس بات کی تائید کی تھی (اس سلسلے میں دوسری، ساتویں، نویں ، اور پندرہویں روایت کا مطالعہ فرمائیں)
 گزشتہ روایات کی روشنی میں اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ پیغمبر اسلامؐ کے صحابی ابن عباس نے شیعوں کی طرح دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا تھا .

۶ پیغمبر اسلامؐ کی سیرت سے دو نمازوں کو ایک ساتھ بجالانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اکیسویں حدیث کی روشنی میں یہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ نماز مغرب کے وقت پیغمبر اکرمؐ مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتھے لیکن آنحضرتؐ نے نماز مغرب میں تاخیر کی تھی اور "سرف" نامی علاقہ (جو مکہ سے نومیل کے فاصلے پر واقع تھا) میں پہنچ کر نماز مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھا تھا جب کہ یہ واضح ہے کہ اگر آنحضرتؐ مکہ سے مغرب کے اول وقت میں چلے ہوں گے تو اس زمانے کی کم رفتار سواری کے ذریعے سفر کرنے کی وجہ سے یقیناً رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد ہی سرف کے مقام تک پہنچے ہوں گے اسی وجہ سے حضورؐ نے مغرب و عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا تھا اہل سنت حضرات کی صحیح اور مسند کتابوں سے منقول گزشتہ روایات شیعوں کے نظریے (ظہر و عصر یا مغرب و عشاء کی نمازوں کو ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر طرح کی صورتحال میں ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے) کے صحیح ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

اٹھائیسواں سوال

شیعوں کی فقہ کے ماخذ کون سے ہیں؟

جواب: شیعہ، قرآن مجید اور سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے احکام شرعی کو درج ذیل چار بنیادی ماخذ سے حاصل کرتے

ہیں :

۱. کتاب خدا

۲. سنت

۳. اجماع

۴. عقل

مذکورہ ماخذوں میں سے قرآن مجید اور سنت نبویؐ فقہ شیعہ کے بنیادی ترین ماخذ ہیں اب ہم یہاں ان دونوں کے سلسلے میں اختصار کیساتھ گفتگو کریں گے :

کتاب خدا؛ قرآن مجید

مکتب تشیع کے پیرو قرآن مجید کو اپنی فقہ کا محکم ترین منبع اور احکام الہی، کی شناخت کا معیار سمجھتے ہیں کیونکہ شیعوں کے ائمہ % نے فقہی احکام کے حصول کے لئے قرآن مجید کو ایک محکم مرجع قرار دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ کسی بھی نظریے کو قبول کرنے سے پہلے اسے قرآن مجید پر پرکھا جائے اگر وہ نظریہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہو تو اسے قبول کر لیا جائے ورنہ اس نظریے کو نہ مانا جائے .

اس سلسلے میں امام صادق فرماتے ہیں:

وکل حدیث لایوافق کتاب اللہ فهو زخرف. (۱)

ہر وہ کلام جو کتاب خدا سے مطابقت نہ رکھتا ہو وہ باطل ہے.

اسی طرح امام صادق نے رسول خداؐ سے یوں نقل کیا ہے:

أبھا الناس ماجائکم عن یوافق کتاب اللہ فأنا قلته وما جاءکم یخالف کتاب اللہ فلم أقلمہ. (۲)

اے لوگو! ہر وہ کلام جو میری طرف سے تم تک پہنچے اگر وہ کتاب خدا کے مطابق ہو تو وہ میرا قول ہے لیکن اگر تم تک پہنچنے والا کلام کتاب خدا کا مخالف ہو تو وہ میرا قول نہیں ہے.

ان دو حدیثوں سے بخوبی معلوم ہوجاتا ہے کہ شیعوں کے ائمہ % کی نگاہ میں احکام شرعی کو حاصل کرنے کے لئے کتاب خدا محکم ترین ماخذ شمار ہوتی ہے.

.....

(۱) اصول کافی، جلد ۱ ، کتاب فضل العلم ، باب الاخذ بالسنة و شواہد الكتاب ، حدیث ۳.

(۲) گذشتہ حوالہ حدیث ۵.

سنت

حضرت رسول اکرمؐ کا قول و فعل اور کسی کام کے سلسلے میں

آنحضرتؐ کی تائید کو سنت کہتے ہیں اسے شیعوں کی فقہ کا دوسرا ماخذ شمار کیا جاتا ہے سنت نبویؐ کو نقل کرنے والے

ائمہ معصومین % ہیں جو آنحضرتؐ کے علوم کے خزانہ دار ہیں.

البتہ نبی اکرمؐ کے چند دوسرے طریقوں سے نقل ہونے والے ارشادات کو بھی شیعہ قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر ضروری ہے کہ ہم دو چیزوں کے متعلق بحث کریں :

سنت نبویؐ سے تمسک کی دلیلیں: شیعوں کے ائمہ % نے اپنی پیروی کرنے والوں کو جس طرح قرآن مجید پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح انہوں نے سنت نبویؐ کی پیروی کرنے کی بھی تاکید کی ہے اور ہمیشہ اپنے ارشادات میں ان دونوں سے تمسک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام صادق - فرماتے ہیں :

إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول الله ﷺ وإلا فالذ جائکم به أولی به۔ (۱)

جب کوئی کلام تم تک پہنچے تو اگر تمہیں کتاب خدا یا سنت نبویؐ سے اس کی تائید حاصل ہو جائے تو اسے قبول کر لینا اور نہ وہ کلام بیان کرنے والے ہی کو مبارک ہو۔

.....

(۱) اصول کافی جلد ۱ کتاب فضل العلم ، باب الاخذ بالسننہ و شواہد الکتاب حدیث ۲۔

اسی طرح امام محمد باقر - نے ایک جامع الشرائط فقیہ کے لئے سنت نبی اکرم سے تمسک کو اہم ترین شرط قرار دیتے ہوئے یوں فرمایا ہے:

إنّ الفقیہ حق الفقیہ الزاهد ف الدنیا والراغب ف الآخرة المتمسک بسنة النبؐ (۱)

بے شک حقیقی فقیہ وہ ہے جو دنیا سے رغبت نہ رکھتا ہو اور آخرت کا اشتیاق رکھتا ہو ، نیز سنت نبویؐ سے تمسک رکھنے والا ہو۔

ائمہ معصومین % نے اس حد تک سنت نبویؐ کی تاکید فرمائی ہے کہ وہ کتاب خدا اور سنت نبویؐ کی مخالفت کو کفر کی اساس قرار دیتے ہیں اس سلسلے میں امام صادق - یوں فرماتے ہیں :

من خالف کتاب الله وسنة محمدؐ فقد کفر۔ (۲)

جس شخص نے کتاب خدا اور سنت محمدیؐ کی مخالفت کی وہ کافر ہو گیا۔

اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ شیعہ مسلمانوں کے بقیہ فرقوں کی یہ نسبت نبی اکرمؐ کی سنت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اسی طرح بعض لوگوں کا یہ نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے کہ شیعہ نبی اکرمؐ کی سنت سے بیگانہ اور دور ہیں۔

.....

(۱) گذشتہ حوالہ حدیث ۸

(۲) گذشتہ حوالہ حدیث ۶

احادیث اہل بیت سے تمسک کے دلائل

عترت پیغمبر کی احادیث کے سلسلے میں شیعوں کے نظریہ کی وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ ہم ذیل کے دو موضوعات پر گفتگو کریں :

الف: ائمہ معصومین کی احادیث کی حقیقت۔

ب: اہل بیت رسولؐ سے تمسک کے اہم اور ضروری ہونے کے دلائل۔ اب ہم یہاں ان دو موضوعات کے سلسلے میں مختصر طور پر تحقیقی گفتگو کریں گے :

عترت رسولؐ کی احادیث کی حقیقت

شیعوں کے نکتہ نظر سے فقط خداوند حکیم ہی انسانوں کے لئے شریعت قرار دینے اور قانون وضع کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس کی طرف سے یہ شریعت اور قوانین پیغمبر اکرمؐ کے ذریعہ لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ واضح ہے کہ نبی اکرمؐ خدا اور انسانوں کے درمیان وحی کے ذریعہ حاصل ہونے والی شریعت کے پہنچانے کے لئے واسطے کی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے اگر شیعہ اہل بیت % کی احادیث کو اپنی فقہ کے ماخذ میں شمار کرتے ہیں تو ہرگز اس کا یہ

مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت % کی احادیث سنت نبویؐ کے مقابلے میں کوئی مستقل حیثیت رکھتی ہیں بلکہ احادیث اہل بیت % اس وجہ سے معتبر ہیں کہ وہ سنت نبویؐ کو بیان کرتی ہیں۔

اس اعتبار سے ائمہ معصومین % کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ درحقیقت سنت پیغمبرؐ ہی کی وضاحت ہوتی ہے یہاں پر ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ائمہ معصومین % کی چند روایات پیش کریں گے :

۱۔ امام صادق - نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یوں فرمایا ہے:

مهما أجتك فيه بشء فهو عن رسول الله ﷺ نقول برأينا من شيء. (۱)

اس سلسلے میں جو جواب میں نے تمہیں دیا ہے وہ رسول خدا ﷺ کی طرف سے ہے ہم کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے اور ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں:

حدیث حدیث اب ، و حدیث اب حدیث جد و حدیث جد حدیث الحسين و حدیث الحسين حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث

أمیر المؤمنین ، و حدیث أمیر المؤمنین حدیث رسول الله ﷺ و حدیث رسول الله ﷺ قول الله عز وجل. (۲)

میری حدیث میرے والد (امام باقر -) کی حدیث ہے ،

.....

(۱) جامع الاحادیث الشیعہ جلد ۱ ص ۱۲۹

(۲) گذشتہ حوالہ ص ۱۲۷

اور میرے والد کی حدیث میرے دادا (امام زین العابدین -) کی حدیث ہے اور میرے دادا کی حدیث امام حسین - کی حدیث ہے اور امام حسین - کی حدیث امام حسن - کی حدیث ہے اور امام حسن - کی حدیث امیر المؤمنین - کی حدیث ہے اور امیر المؤمنین - کی حدیث رسول خدا ﷺ کی حدیث ہے اور رسول خدا ﷺ کی حدیث خداوند متعال کا قول ہے .

۲۔ امام محمد باقر نے جابر سے یوں فرمایا تھا :

حدثن أب عن جد رسول الله ﷺ عن جبرائيل - عن الله عز وجل و كلما أحدثك بهذا الأسناد. (۱)

میرے پدربزرگوار نے میرے دادا رسول خدا ﷺ سے اور انہوں نے جبرائیل سے اور انہوں نے خداوند عالم سے روایت کی ہے اور جو کچھ میں تمہارے لئے بیان کرتا ہوں ان سب کا سلسلہ سند یہی ہوتا ہے۔

.....

(۱) گذشتہ حوالہ ص ۱۲۸

اہل بیت پیغمبرؐ سے تمسک کے اہم اور ضروری ہونے کے دلائل

شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے محدثین اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ

نے بھی میراث کے طور پر اپنی امت کے لئے دو قیمتی چیزیں چھوڑی ہیں اور تمام مسلمانوں کو ان کی پیروی کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے آنحضرتؐ کے اہل بیت ہیں یہاں ہم نمونے کے طور پر ان روایات میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں :

۱۔ ترمذی نے اپنی کتاب صحیح میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے اور انہوں نے نبی اکرمؐ سے روایت کی ہے :

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ قَدْ تَرَكَتْ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضَلُّوا : كِتَابِ اللَّهِ وَ عَتْرَتِ أَهْلِ بَيْتِي. (۱)

اے لوگو! میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور وہ کتاب خدا اور میری عترت ہیں۔

۲۔ اسی طرح ترمذی نے اپنی کتاب صحیح میں یہ حدیث نقل کی ہے :

قال رسول الله ﷺ إِنَّ تَارَكَتْ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضَلُّوا بَعْدَ أَحَدِهِمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخِرِ : كِتَابِ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ عَتْرَتِ أَهْلِ بَيْتِي وَلَنْ يَفْتَرَقَا حَتَّىٰ يَرْتَدَّ

.....

دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے" اس بنیاد پر اہل بیت پیغمبرؑ وہ ہیں کہ جنہیں آپؐ نے قرآن مجید کا ہم پلہ قرار دیا ہے اور جو معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ معارف اسلامی سے مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ان صفات کے مالک نہ ہوں تو قرآن مجید سے جدا ہو جائیں گے جبکہ پیغمبر اسلامؑ نے فرمایا ہے کہ: قرآن اور عترت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ اس طرح یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اہل بیت % اور ان کی اعلیٰ صفات کی صحیح طور پر شناخت ایک ضروری امر ہے اب ہم اس سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان بزرگ سمجھنے جانے والے محدثین سے منقول روایات کی روشنی میں چند واضح دلیلیں پیش کریں گے:

۱۔ مسلم بن حجاج نے حدیث ثقلین کا ذکر کرنے کے بعد یوں کہا ہے کہ:

"یزید بن حیان نے زید بن ارقم سے پوچھا اہل بیت پیغمبرؑ کون ہیں؟ کیا وہ پیغمبر اکرمؑ کی بیویاں ہیں؟" زید بن ارقم نے جواب دیا:

لا و أم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يظفها فترجع إلى أبيها و قومها أهل بيته أصله و عصبته الذين حرموا الصدقة بعده. (۱)

نہیں خدا کی قسم عورت جب ایک مدت تک کسی مرد کے ساتھ رہتی ہے اور پھر وہ مرد اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت اپنے باپ اور رشتے داروں کے پاس واپس چلی جاتی ہے اہل بیت

.....

(۱) صحیح مسلم ج ۷ باب فضائل علی بن ابی طالب . ص ۱۳۲ طبع مصر.

پیغمبرؑ سے مراد وہ افراد ہیں جو پیغمبر اکرمؑ کے اصلی اور قریبی رشتہ دار ہیں کہ جن پر آنحضرتؑ کے بعد صدقہ حرام ہے۔

یہ قول بخوبی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ عترت پیغمبرؑ جن سے تمسک قرآن کی پیروی کی طرح واجب ہے ان سے ہرگز آنحضرتؑ کی بیویاں مراد نہیں ہیں بلکہ اہل بیت پیغمبرؑ سے وہ افراد مراد ہیں جو آنحضرتؑ سے جسمانی اور معنوی رشتہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر چند خاص صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہوں۔ تبھی تو وہ قرآن مجید کی طرح مسلمانوں کا مرجع قرار پاسکتے ہیں۔

۲۔ پیغمبر اکرمؑ نے صرف اہل بیت % کے اوصاف بیان کرنے پر ہی اکتفاء نہیں کی تھی بلکہ حضور اکرمؑ نے ان کی تعداد (جو کہ بارہ ہے) کو بھی صاف لفظوں میں بیان کر دیا تھا:

مسلم نے جابر بن سمرہ سے نقل کیا ہے:

سمعت رسول الله يقول: لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأب مآقال؟ فقال: كلهم من قريش. (۱)

میں نے پیغمبر خداؑ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کو بارہ خلفاء کے ذریعہ عزت حاصل ہوگی اور پھر پیغمبر اکرمؑ نے کوئی لفظ

.....

(۱) صحیح مسلم جلد ۶ ص ۳ طبع مصر.

کہا جسے میں نہیں سمجھ سکا لہذا میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ پیغمبر اکرمؑ نے کیا فرمایا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ پیغمبر اکرمؑ نے فرمایا ہے کہ وہ سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔

مسلم بن حجاج نے اسی طرح رسول خداؑ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے:

لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً. (۱)

لوگوں کے امور اس وقت تک بہترین انداز میں گزریں گے جب تک ان کے بارہ والی رہیں گے۔

یہ دو روایتیں شیعوں کے اس عقیدے کی واضح گواہ ہیں کہ پیغمبر اسلامؑ کے بعد عالم اسلام کے بارہ امام ہی لوگوں کے حقیقی پیشوا ہیں" کیونکہ اسلام میں ایسے بارہ خلفاء جو پیغمبر اسلامؑ کے بعد بلافاصلہ مسلمانوں کے مرجع اور عزت اسلام

کا سبب بنے ہوں، اہل بیت کے بارہ اماموں کے علاوہ نہیں ملتے کیونکہ اگر اہل سنت کے درمیان خلفاء راشدین کہے

جانے والے چار خلفاء سے صرف نظر کر لیا جائے پھر بھی بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں کی تاریخ اس بات کی

بخوبی گواہی دیتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے برے کردار کی وجہ سے اسلام اور مسلمین کی رسوائی کا سبب بنتے رہے ہیناس اعتبار سے وہ (اہل بیت) کہ جنہیں پیغمبر اسلام ﷺ نے قرآن مجید کا ہم پلہ اور مسلمانوں کا مرجع

.....

(۱) گذشتہ حوالہ.

قرار دیا ہے وہ عترت نبیؐ کے وہی بارہ امام ہیں جو سنت نبیؐ کے محافظ اور آنحضرتؐ کے علوم کے خزینہ دار رہے ہیں۔ ۳ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی نگاہ میں بھی مسلمانوں کے ائمہ کو بنی ہاشم سے ہونا چاہیے یہ بات شیعوں کے اس نظرئیے (کہ اہل بیت کی شناخت حاصل کرنا ضروری ہے) پر ایک اور واضح دلیل ہے۔ حضرت امام علی - فرماتے ہیں:

إِنَّ الْأئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ غَرَسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَاتُصْلِحَ عَلَيٌّ مِنْ سِوَاهُمْ وَلَا تُصْلِحَ الْوَلَاةُ مِنْ غَيْرِهِمْ. (۱)
یاد رکھو قریش کے سارے امام جناب ہاشم کی اسی کشت زار میں قرار دئیے گئے ہیں اور یہ امامت نہ ان کے علاوہ کسی کو زیب دیتی ہے اور نہ ان سے باہر کوئی اس کا اہل ہوسکتا ہے۔

نتیجہ:

گذشتہ روایات کی روشنی میں دو حقیقتیں آشکار ہوجاتی ہیں:

۱. قرآن مجید کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اہل بیت % سے تمسک اور ان کی پیروی بھی واجب ہے۔
۲. پیغمبر اسلام کے اہل بیت جو قرآن مجید کے ہم پلہ اور مسلمانوں کے مرجع ہیں مندرجہ ذیل خصوصیات کے مالک ہیں:

.....

(۱) نبج البلاغہ (صبحی صالح) خطبہ ۱۴۴.

الف: وہ سب قبیلہ قریش اور بنی ہاشم کے خاندان میں سے ہیں۔
ب: وہ سب پیغمبر اکرمؐ کے ایسے رشتہ دار ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔
ج: وہ سب عصمت کے درجے پر فائز ہیں ورنہ وہ عملی طور پر کتاب خدا سے جدا ہوجائیں گے جبکہ پیغمبر اکرمؐ کا ارشاد ہے کہ یہ دونوں (قرآن و عترت) ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آملیں گے۔
د: ان کی تعداد بارہ ہے جو یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے امام ہوں گے۔
ه: پیغمبر اکرمؐ کے یہ بارہ خلفاء اسلام کی عزت و شوکت کا سبب بنینگے۔
گذشتہ روایات میں موجود اوصاف کو مدنظر رکھنے سے یہ بات آفتاب کی مانند روشن ہوجاتی ہے کہ وہ اہل بیت جن کی پیروی کا پیغمبر اکرمؐ نے حکم فرمایا ہے ان سے آنحضرتؐ کی مراد وہی بارہ ائمہ % ہیں جن کی پیروی کرنے اور احکام فقہ میں ان سے تمسک اختیار کرنے کو شیعہ اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

انتیسواں سوال

کیا ابوطالب ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں کہ آپ ان کی زیارت کے لئے جاتے ہیں؟

جواب: حضرت علی - کے والد ماجد، رسولؐ کے چچا جناب ابوطالب بن عبدالمطلب شیعوں کے عقیدے کے مطابق نبی اکرمؐ کی رسالت پر مکمل ایمان رکھتے تھے اور وہ صدر اسلام کی تمام سختیوں اور مشکلات میں آنحضرتؐ کے سب سے بڑے حامی و ناصر تھے۔

خاندان جناب ابوطالب

جناب ابوطالب نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی جس کی سرپرستی پیغمبر اکرمؐ کے جد امجد دین ابراہیمی کے پیرو جناب عبدالمطلب کے ہاتھوں میں تھی جزیرہ عرب کی تاریخ میں معمولی غور و فکر سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جناب عبدالمطلب اپنی زندگی کے سخت ترین حالات اور پر خطر مراحل کے دوران بھی خدا پرستی اور آئین توحید کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوئے تھے۔

جس وقت ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے قصد سے مکہ کی طرف آ رہا تھا تو اس نے راستے میں جناب عبدالمطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا

تھا اور جس وقت جناب عبدالمطلب اپنے اونٹوں کے مطالبے کے لئے ابرہہ کے پاس پہنچے تو اس نے بڑے ہی تعجب کے ساتھ ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کیا لیکن مجھ سے یہاں سے واپس جانے اور خانہ کعبہ کو ویران نہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا؟ اس وقت جناب عبدالمطلب نے اپنے ایمان و اعتقاد پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے یہ جواب دیا تھا :

أنا ربّ الإبل وللبیت ربّ یمنعہ (یحمیہ)۔ (۱)

میں اونٹوں کا مالک ہونا اور اس گھر (خانہ کعبہ) کا بھی مالک موجود ہے جو خود اس کی حفاظت و حمایت کرے گا ۔ اس کے بعد جناب عبدالمطلب مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ۔ پھر مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر یوں کہا :

یا ربّ لأرجو لہم سواکا
یا ربّ فامنع منہم حماکا
إن عدوالبیت من عاداکا
امنعہم أن یخربوا فناکا (۲)

.....

(۱) کامل ابن اثیر جلد ۱ ص ۲۶۱ طبع مصر ، ۱۳۴۸ھ۔

(۲) گذشتہ حوالہ۔

اے پروردگار میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا ۔ پروردگار! تو خود ان دشمنوں کے مقابلے میں اپنے حرم کی حفاظت فرما ۔

اس گھر کے دشمن تجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں انہیں روک دے تاکہ تیرے گھر کو ویران نہ کرسکیں ۔ اس قسم کے بلند پایہ اشعار جناب عبدالمطلب کے مومن اور خدا پرست ہونے کے واضح گواہ ہیں اسی وجہ سے یعقوبی نے اپنی تاریخ کی کتاب میں جناب عبدالمطلب کے متعلق یوں تحریر کیا ہے :

رفض عبادة الأصنام و وحّد الله عزّ وجلّ۔ (۱)

عبدالمطلب نے بتوں کی پوجا سے انکار کیا تھا اور آپ خدا کے موحد بندے تھے ۔

آئیے اب یہ دیکھا جائے کہ اس مومن اور خدا پرست شخصیت کی نگاہ میں ان کے بیٹے ابوطالب کی کیا منزلت تھی؟

عبدالمطلب کی نگاہ میں ابوطالب

تاریخ شاہد ہے کہ بعض روشن ضمیر نجومیوں نے جناب عبدالمطلب کو پیغمبر اکرمؐ کے روشن مستقبل اور ان کی نبوت سے باخبر کر دیا تھا جس وقت "سیف بن ذی یزان"

.....

(۱) تاریخ یعقوبی جلد ۲ ص ۷ طبع مصر.

نے حکومت حبشہ کی باگ ڈور سنبھالی تو جناب عبدالمطلب ایک وفد کے ہمراہ حبشہ تشریف لے گئے اس وقت "سیف بن ذی یزان" نے ایک اہم خطاب کے بعد جناب عبدالمطلب کو یہ خوشخبری دی "آپ کے خاندان میں ایک عظیم القدر نبی تشریف لاجچکے ہیں" اس کے بعد اس نے پیغمبر اکرمؐ کے خصوصیات یوں بیان کئے:

اسمہ محمد یتیموت أبوه و أمه و يكفله جدّه و عمّه. (۱)

انکا نام محمدؐ ہے انکے ماں باپ کا (جلد ہی) انتقال ہو جائے گا اور ان کی سرپرستی ان کے دادا اور چچا کریں گے .

اس وقت اس نے پیغمبر اکرمؐ کے صفات بیان کرتے ہوئے یہ جملے بھی کہے تھے :

يعبد الرّحمٰن و يدحض الشيطان و يخمدالنيران و يُكسر الأوثان قوله فصل و حكمه عدل و يأمر بالمعروف و يعلّمه و ينهى عن المنكر و يبطله. (۲)

وہ خدائے رحمن کی عبادت کریں گے، شیطان کے دام میں نہیں آئیں گے، جہنم کی آگ کو بجھائیں گے اور بتوں کو توڑیں

.....

(۱) سیرہ حلبی جلد ۱ طبع مصر ص ۱۳۶، ۱۳۷، اور طبع بیروت ص ۱۱۵-۱۱۴ .
(۲) گذشتہ حوالہ.

گے . ان کا قول حق و باطل میں جدائی کا میزان ہوگا وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیں گے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے وہ دوسروں کو برائی سے روکیں گے اور اسے باطل قرار دیں گے .

اور پھر اس نے جناب عبدالمطلب سے کہا :

إنک لجدہ یا عبدالمطلب غیر کذب. (۱)

اے عبدالمطلب اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ آپ ان کے دادا ہیں .

جناب عبدالمطلب نے جب یہ خوشخبری سنی تو سجدہ شکر بجالائے اور پھر اس بابرکت مولود کے احوال کو یوں بیان کیا:

إنّہ کان ل ابن و کنت بہ معجباً و علیہ رقیفاً و إنّ زوجته کریمۃ من کرائم قوم آمنۃ بنت و ہب بن عبدمناف ابن زہرہ فجاءت بغلام فسمّیتہ محمداً مات أبوه و أمه و کفلته أنا و عمّه (یعنی اباطالب). (۲)

میرا ایک بیٹا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی میں نے اس کی شادی اپنے شرافتمند رشتہ داروں میں سے ایک نیک سیرت خاتون "آمنہ" بنت وہب بن عبدمناف سے کی تھی اس

.....

(۱) گذشتہ حوالہ.
(۲) سیرہ حلبی جلد ۱ ص ۱۳۷ طبع مصر.

خاتون کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اس کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہوچکا ہے اس کی سرپرستی میں نے اور اس کے چچا ابوطالب نے اپنی ذمہ لی ہے .

جناب عبدالمطلب کے اس کلام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس یتیم بچے کے روشن مستقبل سے اچھی طرح باخبر تھے اس لئے انہوں نے اس بچے کو اپنے سب سے عزیز بیٹے جناب ابوطالب کی سرپرستی میں دیا تھا اور اس عظیم سعادت کو کسی اور کے نصیب میں نہیں آنے دیا تھا اس سے یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ جناب ابوطالب اپنے مومن اور موحد والد کی نگاہ میں ایمان کے اس درجہ پر فائز تھے کہ صرف وہی پیغمبر اکرمؐ کی سرپرستی کی لیاقت رکھتے تھے. (۱)

اب ہم مزید وضاحت کے لئے جناب ابوطالب کے ایمان پر چند واضح دلیلیں پیش کرتے ہیں:

.....

(۱) زیادہ وضاحت کے لئے ان کتابوں "سیرہ حلبی" جلد ۱ ص ۱۳۴ طبع مصر اور "سیرہ ابن ہشام" جلد ۱ ص ۱۸۹، طبع بیروت اور "ابوطالب مومن قریش" ص ۱۰۹ طبع بیروت اور "طبقات کبریٰ" جلد ۱ ص ۱۱۷ طبع بیروت کا مطالعہ مفید ہوگا.

جناب ابوطالب کے مومن ہونے کی دلیلیں

۱۔ جناب ابوطالب کے علمی اور ادبی آثار

مسلمان مورخین اور علماء نے جناب ابوطالب کے بہت سے بلیغ قصیدے اور متعدد قسم کے علمی و ادبی آثار نقل کئے ہیں جو ان کے محکم ایمان کی دلیل بینیہاں ہم ان کثیر آثار میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہیں:

ليعلم خيار الناس أن محمدًا
نب كموسىٰ والمسيح ابن مريم
اتانا بهدٍ مثل ما أتيا به
فكل بأمر الله يهدو ويعصم (۱)

شريف لوگ یہ جان لیں کہ موسىٰ و عيسىٰ ابن مريم کی طرح محمد بھی نبی خدا ہیں وہ ہمارے لئے اسی طرح کا پیغام ہدایت لائے ہیں جیسا کہ یہ دو نبی لائے تھے پس سارے نبی ، خدا کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں .

ألم تعلموا أنا وجدنا محمدًا
رسولاً كموسىٰ خطف أول الكتب
و أن عليه ف العباد محبة
ولا حيف فيمن خصه الله بالحب (۲)

.....

(۱) "کتاب الحجۃ" ص ۵۷ اور اسی کے مثل مستدرک جلد ۲ ص ۲۲۳ طبع بیروت میں بھی موجود ہے۔
(۲) تاریخ ابن کثیر جلد ۱ ص ۴۲، اور شرح نہج البلاغہ (ابن ابی الحدید) جلد ۱ ص ۷۲ (طبع دوم)

کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے موسیٰ کی طرح محمد (ص) کو بھی رسول پایا ہے جن کا ذکر پہلی (آسمانی) کتابوں میں بھی آیا ہے؟ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور جس شخص کے دل کو خداوند عالم نے انکی محبت کیلئے چن لیا ہے اس پر افسوس نہ کیا جائے

لقد أكرم الله النّب محمدًا
فأكرم خلق الله ف الناس أحمد
و شقّ له من اسمه ليجله
فذوالعرش محمود وهذا محمد (۱)

خداوند عالم نے اپنے نبی محمدؐ کو مکرم قرار دیا ہے اس اعتبار سے وہ مخلوقات خدا میں سب سے زیادہ مکرم ہیں پروردگار نے ان کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے پس صاحب عرش محمود ہے اور یہ محمدؐ ہیں۔

والله لن يصلوا إليك بجمعهم
حتى أوسد ف التراب دفينا
فاصدع بأمرک ما عليك غضاضة
وابشر بذلک و قر منک عیونا
و دعوتن و علمت أنك ناصح
ولقد دعوت و کنت ثم أمینا
ولقد علمت بأنّ دین محمد
من خیر أديان البریة دینا (۲)

.....

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۱۴ ص ۷۸ طبع دوم، تاریخ ابن عساکر جلد ۱ ص ۲۷۵، تاریخ ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۲۶۶، تاریخ الخمیس جلد ۱ ص ۲۵۴۔

(۲) خزانہ الادب بغدادی جلد ۱ ص ۲۶۱ اور تاریخ ابن کثیر جلد ۳ ص ۴۲، اور شرح نہج البلاغہ (ابن ابی الحدید) جلد ۱۴ ص ۵۵ (طبع دوم) اور فتح الباری جلد ۷ ص ۱۵۳، ۱۵۵۔ اور الاصابہ جلد ۴ ص ۱۱۶ (طبع مصر) ۱۳۵۸ھ اور دیوان ابی طالب ص ۱۲۔

(اے رسول خدائے خدا کی قسم ہرگز آپ کے دشمن آپ تک نہ پہنچ پائیں گے یہاں تک کہ میں خاک تلے دفن ہو جاؤں پس آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے بے خوف و خطر اس کا اظہار کریں اور بشارت دے کر آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائیں آپ نے مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں بے شک آپ اپنی دعوت میں امانت دار ہیں میں نے یہ جان لیا ہے کہ محمد کا دین دنیا کے سارے دینوں سے بہتر ہے۔

یا شاہد اللہ علّٰ فاشہد

إنّ علیٰ دین النبّ أحمد

من ضلّ ف الدین فنّ مهتد (۱)

اے خدا کے مجھ پر گواہ آپ گواہی دیجئے کہ میں احمد، رسول خدا کے دین پر ہوں کوئی اپنے دین میں گمراہ ہو تو ہو، میں تو ہدایت یافتہ ہوں۔

و: جناب ابوطالب نے اپنی بابرکت زندگی کے آخری ایام میں قریش کے سرداروں کو جمع کر کے ان اشعار کے ذریعہ انہیں پیغمبر اکرم کی مکمل طور پر حمایت کرنے کی دعوت دی تھی:

أوص بنصر الخیر أربعة

ابن علیًا و شیخ القوم عباسا

و حمزة الأسد الحام حقیقه

وجعفر أن تذودوا دونہ الناسا

كونوا فدائئ لکم أم ومولدت

ف نصر أحمد دون الناس اتراسا

.....

(۱) شرح نہج البلاغہ (ابن ابی الحدید) جلد ۱۴ ص ۷۸ اور دیوان ابوطالب ص ۷۵۔

میں چار لوگوں کو سب سے افضل نبی کی مدد کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اپنے بیٹے علی، اپنے قبیلے کے بزرگ عباس، شیر خدا اور مدافع پیغمبر حمزہ اور (اپنے بیٹے) جعفر کو نصیحت کرتا ہوں کہ آنحضرت کے ہمیشہ ناصر و مددگار رہیں اور تم لوگ (میری ماں اور ان کی تمام اولادیں تم سب پر قربان ہوں) احمد کی مدد کے لئے لوگوں کے سامنے سپر بن جانا۔ (۱)

ہر روشن ضمیر اور انصاف پسند شخص ان بلیغ ادبی آثار (جو صراحت کے ساتھ جناب ابوطالب کے خدا اور رسول پر ایمان کامل کی گواہی دے رہے ہیں) کو دیکھ کر شیعوں کے جناب ابوطالب کے ایمان کے سلسلے میں نظرئیے کو صحیح مان لے گا اور چند سیاسی اہداف کی خاطر بعض مصنفین کی طرف سے مومن قریش، عم پیغمبر اور صدر اسلام کے سخت حالات میں شریعت کے محافظ جناب ابوطالب پر لگائی جانے والی تہمتوں پر افسوس کرے گا۔

۲۔ جناب ابوطالب کا پیغمبر اکرم کے ساتھ نیک سلوک ان کے ایمان کی علامت ہے۔

تمام مشہور مسلمان مورخین نے جناب ابوطالب کی پیغمبر اسلام کے سلسلے میں

.....

(۱) متشابہات القرآن، (ابن شہر آشوب) سورہ حج کی اس آیت (ولینصرن اللہ من ینصرہ) کی تفسیر سے ماخوذ۔

فداکاریوں کو نقل کیا ہے اور یہ چیز جناب ابوطالب کے محکم ایمان کی واضح دلیل ہے کہ جناب ابوطالب نے اسلام کی

حمایت اور پیغمبرؐ خدا کی حفاظت کے لئے آنحضرتؐ کے ساتھ تین سال تک اپنا گھر چھوڑ کر "شعب ابی طالب" میں زندگی گزارا تھی اور انہوں نے اپنی اس زندگی کو قبیلہ قریش کی سرداری پر ترجیح دی تھی اور مسلمانوں کی اقتصادی پابندی کے خاتمے تک انتہائی سخت حالات ہونے کے باوجود آنحضرتؐ کے ہمراہ رہ کر تمام مشکلات کو برداشت کیا تھا۔ (۱) اس سے بڑھ کر یہ کہ جناب ابوطالب نے اپنے عزیز ترین فرزند حضرت علیؑ - کو بھی حضور اکرمؐ کی نصرت کرنے اور صدر اسلام کی مشکلات میں آنحضرتؐ کا ساتھ نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔

ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی شرح میں جناب ابوطالب کے ان جملوں کو نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت علیؑ سے کہے تھے ملاحظہ ہو:

"پیغمبر خدا تمہیں صرف نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں لہذا کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا" (۲)

(۱) اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لئے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ فرمائیں: ۱. سیرہ حلبیہ جلد ۱ ص ۱۳۴ (طبع دوم مصر) ۲. تاریخ الخمیس جلد ۱ ص ۲۵۳ اور ۲۵۴ (طبع ۳ بیروت) ۳. سیرہ ابن بشام جلد ۱ ص ۱۸۹ طبع بیروت. ۴. (شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۱ ص ۵۲ طبع دوم) ۵. (تاریخ یعقوبی اول جلد ۲ طبع نجف) ۶. (الاصابہ جلد ۴ ص ۱۱۵ طبع مصر) ۷. طبقات کبریٰ جلد ۱ ص ۱۹ طبع بیروت ۱۳۸۰ھ.

(۲) شرح نہج البلاغہ (ابن ابی الحدید) جلد ۱ ص ۵۳ طبع دوم.

اس اعتبار سے جناب ابوطالب کی وہ خدمات جو آپ نے پیغمبر خداؐ کے سلسلے میں انجام دی ہیں اور آپ کی اسلام کے دفاع میں بے لوث فداکاریاں آپ کے ایمان کی واضح گواہ ہیں۔ اسی بنیاد پر عالم اسلام کے بزرگ دانشور (ابن ابی الحدید) نے پیغمبر خداؐ کی حفاظت اور دین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں جناب ابوطالب کے زندہ کردار سے متعلق یہ اشعار کہے ہیں:

ولولا أبوطالب و ابنه
لما مثل الدين شخصاً فقاما
فذاك بمكة آوى و حام
وهذا بيثرب جس الحماما
وما ضرّ مجد أب طالب
جهول لغ أو بصير تعامى (۱)

اگر ابوطالب اور ان کے بیٹے (حضرت علیؑ) نہ ہوتے تو برگزین اسلام کو استحکام حاصل نہ ہوتا ابوطالب نے مکہ میں پیغمبر اکرمؐ کو پناہ دی تھی اور ان کی حمایت کی تھی اور ان کے بیٹے نے یثرب میں (پیغمبر اسلامؐ کی نصرت کے لئے) اپنی جان کی بازیاں لگائی تھیں۔

۳. ابوطالب کی وصیت ان کے ایمان کی گواہ ہے
عالم اسلام کے مشہور مورخین جیسے "حلبی شافعی" نے اپنی کتاب سیرہ حلبیہ میں اور

(۱) شرح نہج البلاغہ (ابن ابی الحدید) جلد ۱ ص ۸۴ طبع ۳.

"محمد دیار بکری" نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں لکھا ہے کہ جناب ابوطالب نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے قبیلے سے پیغمبر اسلامؐ کی نصرت کے سلسلے میں یہ وصیت کی تھی:

یا معشر قریش کونوا له ولایة، ولحزبه حماة، والله لا یسلک أحد منکم سبیلہ الا رشد، ولا یأخذ أحد بهدیه الا سعد، ولوکان لنفس مدة ولأجل تأخر لکففت عنه الهزائن، ولدفعت عنه الدواہ، ثم هلك. (۱)

اے قبیلہ قریش! تم سب مصطفیٰ کے محب اور ان کے ماننے والوں کے حامی و ناصر بن جاؤ خدا کی قسم تم میں سے جو

شخص بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ ضرور ہدایت پائے گا اور جو کوئی ان سے ہدایت حاصل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اگر میری زندگی باقی رہتی اور موت نے مجھے مہلت دی ہوتی تو میں یقیناً فتنوں اور سختیوں سے آنحضرتؐ کی محافظت کرتا اور پھر یہ آخری کلمات کہتے کہتے جناب ابوطالب نے داعی اجل کو لبیک کہا تھا۔

۴ پیغمبر

خدا کی ابوطالب سے محبت ان کے ایمان کی دلیل ہے
پیغمبر خدا نے مختلف موقعوں پر اپنے چچا ابوطالب کا احترام و اکرام کیا ہے اور ان

.....

(۱) تاریخ الخمیس جلد ۱ ص ۳۰۰ اور ۳۰۱، طبع بیروت اور سیرہ حلبی جلد ۱ ص ۳۹۱ (طبع مصر)

سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے یہاں ہم ان میں سے صرف دو کا تذکرہ کرتے ہیں :
الف: بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں پیغمبر اسلامؐ کی درج ذیل روایت نقل کی ہے جس میں آپؐ نے جناب عقیل بن ابی طالب سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا ہے:
ن احبک حنیناً حباً لقرابتک منّ و حباً لما کنت أعلم من حبّ عم ایّاک (۱)
میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں نایک تمہاری مجھ سے قریبی رشتے داری کی وجہ سے ہے اور دوسری محبت اس وجہ سے ہے کہ میں جانتا ہوں ابوطالب تم سے بہت محبت کرتے تھے .
ب: حلبی نے اپنی کتاب سیرت میں پیغمبر خدا کی یہ روایت نقل کی ہے جس میں آپؐ نے جناب ابوطالب کی تعریف فرمائی ہے :

مانالت قریش منّ شیناً اکرہہ (أشدّ الکراہة) حتی مات أبو طالب. (۲)
جب تک ابوطالب زندہ رہے مجھے قریش کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکے۔
رسول خدا کا ابوطالب سے محبت کرنا اور ان کی خدمات کو سراہنا جناب ابوطالب

.....

(۱) تاریخ الخمیس جلد ۱ ص ۱۶۳ (طبع بیروت) الاستیعاب جلد ۲ ص ۵۰۹
(۲) سیرہ حلبی جلد ۱ ص ۳۹۱ (طبع مصر).

کے محکم ایمان کی واضح دلیل ہے کیونکہ پیغمبر خداؐ صرف مومنین ہی سے محبت رکھتے تھے اور مشرکین و کفار سے سخت گیری کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے:
(مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ شِدَائِي عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...) (۱)
محمدؐ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لئے سخت بینا اور آپس میں انتہائی مہربان ہیں۔
ایک اور جگہ فرماتا ہے :

(لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَبَنَاتِهِمْ وَخِوَانِهِمْ وَعَشِيرَتَهُمْ وَلَئِن كَانَتْ فِ قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ...) (۲)

آپ کو کبھی ایسے افراد نہیں ملیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے (بھی) ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔

ان آیات کا جب پیغمبر اکرمؐ کی ابوطالب سے محبت اور مختلف موقعوں پر ان کی ستائش سے موازنہ کیا جائے تو اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ جناب ابوطالب ایمان کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز تھے .

.....

(۱) سورہ فتح آیت: ۲۹ .
(۲) سورہ مجادلہ آیت: ۲۲ .

۵ حضرت علی - اور اصحاب رسولؐ کی گواہی
 حضرت امیر المومنین - اور اصحاب پیغمبرؐ نے جناب ابوطالب کے محکم ایمان کی گواہی دی ہے ملاحظہ ہو:
 الف: جس وقت حضرت امیر المومنین علی - کی خدمت میں ایک شخص نے جناب ابوطالب پر ایک ناروا تہمت لگائی تو
 حضرت علی - کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے اور آپ نے فرمایا:
 مہ ، فضّ الله فاك والذ بعث محمدًا بالحقّ نبيًا لو شفع أب ف كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله. (۱)
 چپ رہ! اللہ تیرے منہ کو توڑ دے مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے محمدؐ کو برحق نبی قرار دیا ہے اگر میرے والد
 (ابوطالب) روئے زمین کے سارے گناہ گاروں کی شفاعت کرنا چاہیں تو بھی پروردگار ان کی شفاعت کو قبول کرے گا .
 ایک اور جگہ فرماتے ہیں :

(۱) الحجۃ ص ۲۴ .

كان والله ابوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب مؤمنًا مسلمًا يكتُم إيمانه مخافة علي بن هاشم أن تنازها قريش. (۱)
 خدا کی قسم ابوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب مومن اور مسلمان تھے اور اپنے ایمان کو قریش کے کفار سے مخفی رکھتے
 تھے تاکہ وہ بنی ہاشم کو سنا نہ سکیں.
 حضرت علی کے یہ ارشادات نہ صرف جناب ابوطالب کے ایمان کی تائید کرتے ہیں بلکہ ان کو ایسے اولیائے خدا کی
 صف میں کھڑا کر دیتے ہیں جو پروردگار عالم کے اذن سے شفاعت کا حق رکھتے ہیں .
 ب: جناب ابوذر غفاری نے جناب ابوطالب کے بارے میں کہا ہے:
 والله الذ لا اله الا هو ما مات ابوطالب حتى أسلم. (۲)
 قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ابوطالب اسلام لانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں.

(۱) الحجۃ ص ۲۴ .

(۲) شرح نہج البلاغہ (ابن ابی الحدید) جلد ۱۴ ص ۷۱ (طبع دوم).

ج: عباس بن عبدالمطلب اور ابوبکر بن ابی قحافہ سے بھی بہت سی سندوں کے ساتھ یہ روایت نقل ہوئی ہے :
 إنَّ أباطالب مامات حتى قال: لا اله الا الله محمد رسول الله. (۱)
 بے شک ابوطالب "لا اله الا الله محمد رسول الله" کہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں.

۶۔ ابوطالب اہل بیت کی نگاہ میں
 ائمہ معصومین % نے جناب ابوطالب کے ایمان کو صاف لفظوں میں بیان فرمایا ہے اور مختلف موقعوں پر پیغمبر اسلامؐ کے
 اس فداکار کا دفاع کیا ہے یہاں پر ہم ان میں سے صرف دو نمونوں کا تذکرہ کرتے ہیں:
 الف: امام محمد باقر - فرماتے ہیں:
 لو وضع إيمان أب طالب ف كفة ميزان و إيمان هذا الخلق ف الكفة الأخرى لرجح إيمانه. (۲)
 اگر ابوطالب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور تمام مخلوقات کے ایمان کو اس کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا
 جائے
 تو ایمان ابوطالب ان کے ایمان سے بھاری ہوگا.

(۱) الغدير ، جلد ۷ ص ۳۹۸ تفسیر و کعب سے نقل کرتے ہوئے (طبع ۳ بیروت ۱۳۷۸ھ).
 (۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۱۴ ص ۶۸ (طبع دوم) الحجۃ ص ۱۸ .

ب: امام جعفر صادق - رسول اکرمؐ سے نقل فرماتے ہیں :

إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ أَسْرَوْا الْإِيمَانَ وَ أَظْهَرُوا الْكُفْرَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ وَإِنَّ أَبَاطِلَ أَسْرَ الْإِيمَانِ وَ أَظْهَرَ الشَّرْكَ فَآتَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ. (۱)

اصحاب کہف (چند مصلحتوں کی وجہ سے) اپنے ایمان کو چھپا کر کفر کا اظہار کرتے تھے تو پروردگار عالم نے انہیں دہرا اجر عطا فرمایا تھا۔ ابوطالب نے بھی اپنے ایمان کو چھپا کر (کسی مصلحت کی وجہ سے) شرک کا اظہار کیا تو انہیں بھی پروردگار عالم نے دوہرا اجر دیا ہے۔

گزشتہ دلیلوں کی روشنی میں آفتاب کی طرح واضح و روشن ہوجاتا ہے کہ جناب ابوطالب درج ذیل بلند مقامات پر فائز تھے:

۱۔ خدا و رسولؐ پر محکم ایمان۔

۲۔ پیغمبر خداؐ کے بے لوث حامی و ناصر اور راہ اسلام کے فداکار۔

۳۔ پیغمبر اکرمؐ کے بے نظیر محبوب۔

۴۔ خداوند عالم کے نزدیک عہدہ شفاعت کے مالک۔

.....

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۱۴ ص ۷۰ (طبع دوم) الحجۃ ص ۱۱۵۔

اس اعتبار سے ثابت ہوجاتا ہے کہ جناب ابوطالب پر لگائی گئی نسبتیں باطل اور بے بنیاد ہیں، جو کچھ بیان ہوچکا ہے اس سے دو حقیقتیں آشکار ہوجاتی ہیں:

۱۔ پیغمبر اکرمؐ، جناب امیرالمومنین، ائمہ معصومینؑ اور اصحاب پیغمبرؐ کی نگاہ میں جناب ابوطالب ایک بالیمان شخص تھے۔

۲۔ جناب ابوطالب پر کفر کا الزام باطل اور بے بنیاد ہے اور ان پر یہ تہمت بنی امیہ اور بنی عباس (جو ہمیشہ سے اہل بیتؑ اور جناب ابوطالب کی اولاد سے جنگ کرتے آئے ہیں) کے اشاروں پر بعض سیاسی مفادات کے تحت لگائی گئی تھی۔ اب ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا جائزہ لیں جو "حدیث ضحضاح" کے نام سے مشہور ہے اور جسے بعض لوگوں نے سند قرار دیتے ہوئے جناب ابوطالب کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے ہم یہاں قرآنی آیات، سنت نبویؐ اور عقل کی روشنی میں اس حدیث کے باطل اور بے بنیاد ہونے کے دلائل پیش کریں گے:

حدیث ضحضاح کا تحقیقی جائزہ

بعض مصنفین جیسے بخاری اور مسلم نے "سفیان بن سعید ثوری" "عبدالملک بن عمیر" "عبدالله العزیز بن محمد دردی" "الیث بن سعد" جیسے راویوں سے نقل کرتے ہوئے ان دو اقوال کو پیغمبر اکرمؐ سے منسوب کیا ہے:

الف: "وَجَدْتُهُ فِ غَمْرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ".

میں نے انہیں آگ کے انبار میں پایا تو انہیں ضحضاح (۱) کی طرف منتقل کر دیا۔

ب: "لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَجْعَلُ فِ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبِيهِ يَغْلُ مِنْهُ دِمَاغَهُ"

قیامت کے دن شاید میری شفاعت ابوطالب کے کام آجائے تاکہ انہیں ضحضاح میں ڈال دیا جائے جس کی گہرائی پاؤں کے ٹخنوں تک ہوگی اور جس میں ان کا (معاذ اللہ) دماغ کھولے گا (۲)

اگرچہ جناب ابوطالب کے ایمان سے متعلق گزشتہ روایات اور دلائل کی روشنی میں اس حدیث ضحضاح کا باطل اور بے بنیاد ہونا اچھی طرح ثابت ہوجاتا ہے لیکن پھر بھی اس مسئلے کی وضاحت کیلئے حدیث ضحضاح سے متعلق دو چیزوں کی تحقیق ضروری ہے:

۱۔ اس حدیث کے سلسلہ سند کا باطل ہونا۔

۲۔ اس حدیث کے متن کا کتاب خدا اور سنت پیغمبرؐ پر خلاف ہونا۔

.....

(۱) "ضحضاح" ایسے گڑھے کو کہتے ہیں جس کی گہرائی آدمی کے قد سے کچھ کم ہو۔

(۲) صحیح بخاری جلد ۵ ابواب مناقب باب قصہ ابوطالب ص ۵۲ اور جلد ۸ کتاب الادب باب کنیۃ المشرک ص ۴۶ طبع مصر۔

حدیث ضحضاح کے سلسلہ سند کا باطل ہونا
ہم نے بیان کیا تھا کہ اس حدیث کے راوی "سفیان بن سعید ثوری" "عبدالملک بن عمیر" "عبدالعزیز بن محمد دروردی" اور
"لیث بن سعد" "بناب ہم ان راویوں کے سلسلے میں اہل سنت کے علمائے رجال کے نظریات کی تحقیق کریں گے:

الف: "سفیان بن سعید ثوری"

ابو عبد اللہ بن احمد بن عثمان ذہبی کا شمار اہل سنت کے بزرگ مرتبہ علمائے رجال میں ہوتا ہے انہوں نے سفیان بن سعید
ثوری کے بارے میں یوں کہا ہے: "کان یدلس عن الضعفاء" (۱)
سفیان بن سعید ثوری ضعیف راویوں کی گھڑی ہوئی حدیثیں نقل کرتا تھا۔
ذہبی کا یہ کلام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سفیان ثوری ضعیف اور مجہول الحال قسم کے افراد سے حدیثیں نقل کیا کرتا
تھا اس اعتبار سے اس کی نقل کی ہوئی حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(۱) میزان الاعتدال (ذہبی) جلد ۲ ص ۱۶۹ طبع ۱ بیروت ۱۳۸۲ھ

ب: عبدالملک بن عمیر

اس کے بارے میں ذہبی نے بھی کہا ہے:
طال عمره وساء حفظه ، قال أبو حاتم ليس بحافظ تغیر حفظه و قال أحمد: ضعيف يخلط و قال ابن معين : مخلط و قال ابن خراش
كان شعبة لا يرضاه و ذكر الكوسج عن أحمد أنه ضعفه جداً. (۱)
اس کی عمر زیادہ ہوگئی تھی اور اس کا حافظہ کام نہیں کرتا تھا اور اسی طرح ابو حاتم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ:
اس کے اندر حدیثیں حفظ کرنے کی قدرت ختم ہوگئی تھی اور اس کی یادداشت جاتی رہی تھی اسی طرح احمد بن حنبل نے
اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ضعیف تھا صحیح حدیث کو جعلی حدیث سے ملا کر بیان کرتا تھا اور ابن معین نے اس
کے بارے میں کہا ہے کہ وہ صحیح اور غلط حدیثوں کو آپس میں ملا دیا کرتا تھا اور ابن خراش نے بھی اس کے بارے میں
کہا ہے کہ شعبہ بھی اس سے راضی نہ تھے اور کوسج نے احمد ابن حنبل سے یوں نقل کیا ہے کہ وہ عبدالملک بن عمیر کو
نہایت ہی ضعیف قسم کا شخص شمار کرتے تھے۔
گذشتہ اقوال کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے "عبدالملک بن عمیر" درج ذیل صفات کا مالک تھا:

(۱) میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۶۶۰ (طبع ۱، بیروت)

۱. اس کا حافظہ ختم ہوگیا تھا اور وہ بھول جاتا تھا۔
۲. علم رجال کی اصطلاح میں وہ ایک ضعیف شخص تھا اور اسکی روایات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
۳. بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا شخص تھا۔
۴. صحیح اور غلط کو آپس میں ملا کر بیان کرنے والا شخص تھا۔ واضح ہے کہ مذکورہ صفات میں سے صرف ایک صفت
بھی عبدالملک بن عمیر کو ضعیف اور ناقابل اعتماد شخص قرار دینے کیلئے کافی تھی جبکہ اسکے اندر تو یہ سارے
نقص جمع تھے۔

ج: عبدالعزیز بن محمد دروردی

اہل سنت کے علمائے رجال نے اسے حافظہ سے بے بہرہ اور بھول جانے والا ایسا شخص قرار دیا ہے کہ جس کی روایات
پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ احمد بن حنبل نے عبدالعزیز بن محمد دروردی کے بارے میں یہ کہا ہے: إذا حدث من حفظه جاء
ببواطيل. (۱)

جب بھی وہ اپنے حافظے سے کوئی روایت نقل کرتا ہے تو وہ باطل اور بے ہودہ اقوال سے پر ہوتی ہے۔
اسی طرح ابو حاتم نے اس کے بارے میں کہا ہے: "لا یحتج بہ" (۲) اس کی

.....

(۱) گذشتہ حوالہ ص ۶۳۴.

(۲) گذشتہ حوالہ.

حدیث کے ذہب استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اور ابوزرارہ نے اس کے بارے میں "سء الحفظ" یعنی اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا
جیسے الفاظ استعمال کئے ہیں (۱)

د: لیث بن سعد

اہل سنت کے علمائے رجال کی کتابوں کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ وہ راوی جن کے نام "لیث" ہیں
وہ سب ایسے مجہول الحال یا ضعیف افراد ہیں جن کی نقل کی ہوئی احادیث پر عمل اور اعتماد نہیں کیا جاسکتا (۲) لیث بن
سعد بھی انہی ضعیف اور لاپرواہ افراد میں سے تھا جو احادیث کے سننے اور ان کے راویوں سے لینے میں انتہائی
لا پرواہی سے کام لیتے تھے۔

یحییٰ بن معین نے اس کے بارے میں کہا ہے: "انہ کان یتسائل ف الشیوخ والسماع. (۳)

لیث بن سعد، افراد سے حدیث لینے اور سننے میں لاپرواہی کیا کرتا تھا۔

"نبیاتی" نے بھی اسے ضعیف افراد میں قرار دیا ہے اور اپنی کتاب "التذلیل علی الکامل" (جسے انہوں نے ضعیف افراد کی
پہچان کے لئے لکھا ہے) میں "لیث بن سعد"

.....

(۱) گذشتہ حوالہ ص ۶۳۴.

(۲) میزان الاعتدال جلد ۳ ص ۲۰ تا ۲۳ طبع ۱، بیروت.

(۳) گذشتہ حوالہ ص ۴۲۳.

کے نام کا بھی ذکر کیا ہے (۱)۔

اس بیان سے معلوم ہوجاتا ہے کہ حدیث "ضحضاح" کے سارے راوی انتہائی ضعیف تھے لہذا ان سے منقول احادیث پر
اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

حدیث ضحضاح کا مضمون قرآن و سنت کے خلاف ہے اس حدیث میں پیغمبر اکرمؐ کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ آپؐ نے
جناب ابوطالب کو (معاذ اللہ) آگ کے شعلوں کے انبار سے نکال کر ضحضاح کی طرف منتقل کردیا تھا اس اعتبار سے
پیغمبر اکرمؐ نے ان کے عذاب میں کمی کرادی تھی یا آنحضرتؐ نے قیامت کے دن ان کے حق میں شفاعت کرنے کی آرزو
کی تھی جبکہ قرآن مجید اور سنت نبویؐ کے اعتبار سے آنحضرتؐ کا عذاب میں کمی کرانے یا شفاعت کرنے کا حق صرف
مومنوں اور مسلمانوں سے ہی مخصوص ہے لہذا اگر (معاذ اللہ) جناب ابوطالب کافر ہوتے تو ہرگز پیغمبر اکرمؐ ان کے عذاب
میں کمی یا ان کی شفاعت کی آرزو نہ کرتے۔ اس اعتبار سے یہ ثابت ہوجاتا ہے کہ (حدیث ضحضاح) کا مضمون باطل اور
بے بنیاد ہے اب

ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کی چند واضح دلیلیں پیش کرتے ہیں:

الف: قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے:

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ

.....

(۱) شیخ الابطح ص ۷۵ اور میزان الاعتدال جلد ۳ ص ۴۲۳.

نَجَزِ كُلَّ كُفُوْرٍ (۱)

اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کیلئے جہنم کی آگ ہے نہ تو ان کی قضا آنے گی کہ مرجائیں اور نہ ہی انکے عذاب میں

کوئی تخفیف کی جائی گی ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا دیا کرتے ہیں۔
 ب: سنت نبیؐ میں بھی کفار کے حق میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے: ابوذر غفاری نے پیغمبر اکرمؐ سے یہ روایت نقل کی ہے
 :
 أعطيت الشفاعة وھ نائلة من أمت من لا یشرك بالله شيئاً.
 مجھے شفاعت کرنے کا حق دیا گیا ہے اور وہ میری امت کے ایسے افراد کے لئے ہوگی جنہوں نے خداوند عالم کے سلسلے
 میں شرک نہ کیا ہو۔
 لہذا حدیث ضحاح کا مضمون باطل ، بے بنیاد اور قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے۔

نتیجہ

اس بیان کی روشنی میں یہ واضح ہوجاتا ہے کہ حدیث ضحاح سند و متن کے اعتبار
 سے ناقابل عمل روایت ہے۔ اس طرح جناب ابوطالب کی باایمان شخصیت کو داغدار کرنے والی مہمل روایت باطل ہوجاتی
 ہے اور پیغمبر اکرمؐ کے حامی و ناصر جناب ابوطالب کا ایمان محکم طریقہ سے ثابت ہوجاتا ہے۔

.....

(۱)سورہ فاطر آیت : ۳۶۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

تیسواں سوال

کیا شیعوں کی نظر میں جبرئیل - نے منصب رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے اور کیا یہ صحیح ہے کہ انہوں نے
 حضرت علیؑ کے بجائے قرآن مجید کو رسول اکرمؐ پر نازل کیا ہے؟

جواب: بعض جاہل اور خود غرض افراد نے شیعوں پر یہ تہمت لگائی ہے۔ اس مسئلے کے جواب سے پہلے ہم ضروری
 سمجھتے ہیں کہ اس سوال کے پیدا ہونے کا اصلی سبب بیان کردیں:

اس تہمت کا اصلی سبب

قرآنی آیات اور احادیث نبوی کے مطابق یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت جبرئیل - نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت
 کی ہے کیونکہ خداوند عالم نے انہیں حکم دیا تھا کہ منصب نبوت کو خاندان اسرائیل میں قرار دیں لیکن انہوں نے پروردگار
 عالم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منصب نبوت کو اولاد اسماعیل میں قرار دے دیا اسی بنیاد پر یہودی جناب
 جبرئیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں (۱)

اور ان کے بارے میں ہمیشہ "خان الامین" "جبرائیل نے خیانت کی" کا جملہ استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید
 نے ان پر اعتراض کیا ہے اور ان کے نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے مندرجہ ذیل آیت میں جناب جبرئیل کو فرشتہ
 "امین" کے نام سے یاد کیا ہے:

(نَزَلَ بِرُوحِ الْمَلَكِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ) (۲)

اس (قرآن مجید) کو روح الامین (جبرائیل) لے کر نازل ہوئے ہیں یہ آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عذاب
 الہی سے ڈرانے والوں میں سے ہوجائیں۔

ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ) (۳)

.....

(۱) تفسیر فخر رازی جلد ۱ ص ۴۳۶ اور ۴۳۷ طبع مصر ۱۳۰۸ھ

(۲) سورہ شعراء آیت: ۱۹۴

(۳) سورہ بقرہ آیت: ۱۹۴۔۹۳

آپ کہہ دیجئے: جو کوئی جبرئیل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو حکم خدا سے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔

اگر ان آیات کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوم یہود چند وجوہات کی بنا پر جناب جبرئیل کو اپنا دشمن شمار کرتے ہوئے انہیں فرشتہ عذاب اور رسالت پہنچانے میں خیانت کرنے والا تصور کرتی تھی لہذا اس کلمے "خان الامین" کا سرچشمہ قوم یہود کا عقیدہ ہے اور بعض جاہل مصنفین نے شیعوں سے اپنی پرانی دشمنی کے نتیجے میں بے انصافی سے کام لیتے ہوئے یہودیوں کے اس جملے کو شیعہ قوم سے منسوب کر دیا ہے۔

شیعوں کی نگاہ میں منصب نبوت

شیعہ، قرآن و سنت کی پیروی اور ائمہ معصومین % کی روایات کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ کو حکم خدا سے ساری دنیا کے لئے نبی برحق سمجھتے ہیں بلکہ وہ آنحضرت ﷺ کو آخری نبی اور سید المرسلین بھی مانتے ہیں

شیعوں کے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب - اپنے اس گہر بار کلام میں اس حقیقت کی یوں گواہی دیتے ہیں:

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَحُجَّةَ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ. (۱)

میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس خدائے واحد کے جس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد خدا کے بندے اس کے رسول ، خاتم الانبیاء اور سب جہانوں پر خدا کی حجت ہیں۔

امام جعفر صادق - نیز فرماتے ہیں:

"أَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا خَمْسَةَ أَنْبِيَاءٍ هُودًا وَصَالِحًا وَاسْمَاعِيلَ وَشُعَيْبًا وَمُحَمَّدًا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ". (۲)

خداوند عالم نے پانچ انبیاء کو قوم عرب میں سے مبعوث فرمایا ہے: حضرت ہود، حضرت صالح ، حضرت اسماعیل ، حضرت شعیب اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ۔

یہ حدیث بخوبی شیعوں پر لگائی گئی نسبت کو باطل کر دیتی ہے اور حضرت محمد بن عبد اللہ کو خدا کے آخری نبی کی حیثیت سے پہچناتی ہے (۳)

.....

(۱) نہج السعادة جلد ۱ ص ۱۸۸ طبع بیروت اور کافی جلد ۸ صفحہ ۶۷ طبع ۲ تہران۔

(۲) بحار الانوار جلد ۱۱ ص ۴۲ طبع ۲ بیروت ۱۴۰۳ھ

(۳) پیغمبر اسلام کی خاتمیت کے سلسلے میں زیادہ روایات سے آگاہی کے لئے استاد جعفر سبحانی کی کتاب "مفہم القرآن" کا مطالعہ فرمائیں۔

اسی بنیاد پر تمام شیعہ جناب جبرئیل کو رسالت پہنچانے میں امین سمجھتے ہیں اور اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ خدا کے آخری اور برحق نبی تھے اور حضرت علی بن ابی طالب - آنحضرت ﷺ کے حقیقی وصی اور جانشین تھے۔

یہاں پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ﷺ کی درج ذیل حدیث پیش کریں جس کے صحیح ہونے پر شیعہ اور سنی دونوں اتفاق نظر رکھتے ہیں اور دونوں ہی فرقوں کے محدثین نے اس حدیث کو اپنی معتبر کتابوں میں نقل کیا ہے یہ حدیث "حدیث منزلت" کے نام سے مشہور ہے اس حدیث میں آپ نے اپنی رسالت کی خاتمیت بیان کرنے کے بعد حضرت علی - کو اپنا وصی اور جانشین معین فرمایا ہے پیغمبر اکرم ﷺ نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ بَنِي هَارُونَ مِنْ مَوْسَىٰ إِلَّا إِنَّهُ لَأَنْبَىٰ بَعْدَ (۱)

.....

- (۱) اس حدیث کے بے شمار ماخذ موجود ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں:
۱. صحیح بخاری جلد ۶ ص ۳ باب غزوه تبوک (طبع مصر)
 ۲. صحیح مسلم جلد ۷ ص ۱۲۰ باب فضائل علی (طبع مصر)
 ۳. سنن ابن ماجہ جلد ۱ ص ۵۵ باب فضائل اصحاب النبیؐ (طبع اول مصر)
 ۴. مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۱۰۹ (طبع بیروت)
 ۵. مسند احمد جلد ۱ ص ۱۷۰، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۲، ۱۸۴، ۱۸۵ اور جلد ۳ ص ۳۲
 ۶. صحیح ترمذی جلد ۵ ص ۲۱ باب مناقب علی بن ابی طالب (طبع بیروت)
 ۷. مناقب ابن مغزیلی ص ۲۷ طبع بیروت ۱۴۰۳ھ
 ۸. بحار الانوار جلد ۳۷ ص ۲۵۴ طبع ۲ بیروت ۱۴۰۳ھ
 ۹. معانی الاخبار (شیخ الصدوق) ص ۷۴ طبع بیروت ۱۳۹۹ھ
 ۱۰. کنز الفوائد جلد ۲ ص ۱۶۸ طبع بیروت ۱۴۰۵ھ

(اے علی) کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ویسی ہی ہے جیسی ہارون کو موسیٰ سے تھی صرف یہ (فرق ہے) کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔
یہ حدیث جو کہ سند کے اعتبار سے شیعہ و سنی محدثین کی نظر میں معتبر ہے شیعوں کے درج ذیل دو نظریوں کی واضح دلیل ہے:

۱. حضرت محمد بن عبداللہؐ خدا کے آخری نبی ہیں۔
۲. حضرت علی بن ابی طالب پیغمبر اکرمؐ کے جانشین اور بلا فصل خلیفہ ہیں۔

اکتیسواں سوال

تقیہ کا معیار کیا ہے؟

جواب: دشمنوں کے مقابلے میں دنیاوی اور دینی نقصانات سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے باطنی عقیدے اور ایمان کو چھپانے کا نام تقیہ ہے تقیہ ہر مسلمان شخص کا ایک ایسا شرعی فریضہ ہے جس کا سرچشمہ قرآنی آیات ہیں:

قرآن کی نگاہ میں تقیہ

قرآن مجید میں تقیہ سے متعلق بہت سی آیات بینان میں سے یہاں ہم بعض کا ذکر کرتے ہیں :

(لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ وَلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِ شَيْءٍ لَّأَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) (۱)

.....

(۱) سورہ آل عمران آیت: ۲۸.

مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے .
یہ آیت بخوبی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی رکھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر جان خطرہ میں ہو تو تقیہ کرتے ہوئے ان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔
ب: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ لَا مَنْ كُفِرَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (۱)

جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے سوائے اس کے جسے کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو (تو کوئی حرج نہیں ہے) لیکن وہ شخص جس کے سینہ میں کفر کے لئے کافی جگہ پائی جاتی ہو اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے .
مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں یہ لکھا ہے : ایک دن کفار نے جناب عمار ابن یاسر کو ان کے ماں باپ کے ہمراہ گرفتار کر لیا اور ان سے کہنے لگے کہ اسلام کو

.....

(۱) سورہ نحل آیت: ۱۰۶

چھوڑ کر کفر و شرک اختیار کرلو تو عمار بن یاسر کے ہمراہ افراد نے ان کے جواب میں توحید و رسالت کی گواہیاں دینا شروع کر دیں جس پر کفار نے ان میں سے بعض کو شہید کر ڈالا اور بعض پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے لگے اس وقت جناب عمار نے اپنے باطنی عقیدے کے برخلاف تقیہ اختیار کر کے ظاہری طور پر کفر کے کلمات کو اپنی زبان پر جاری کیا تو کفار نے انہیں چھوڑ دیا پھر اسکے بعد جناب عمار انتہائی پریشانی کے عالم میں رسول خدا کی خدمت میں پہنچے تو آنحضرت نے انہیں تسلی دی اور پھر اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی (۱) اس آیت اور اس کی تفسیر سے بخوبی معلوم ہوجاتا ہے کہ پیغمبر خدا کے زمانے میں اصحاب بھی جان و مال کی حفاظت کے لئے اپنے باطنی عقیدے کو چھپا کر تقیہ کرتے تھے۔

تقیہ شیعوں کی نگاہ میں

بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم حکمران ہمیشہ شیعوں سے برسریکار رہے ہیں اور انہوں نے شیعوں کے قتل عام میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے (۲)

اس بنا پر اس زمانے میں شیعوں نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق انتہائی سخت حالات میں اپنے سچے عقائد چھپا کر اپنی اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی جانیں محفوظ کی تھیں واضح ہے کہ اس ظلم و ستم کی فضا میں شیعوں کے لئے تقیہ کے علاوہ کوئی ایسا چارہ کار نہیں تھا جو شیعوں کو نابودی سے بچاتا لہذا اگر وہ ظالم حکام، شیعوں کے دشمن نہ ہوتے اور شیعوں کا بے گناہ قتل عام نہ کرتے تو ہر گز شیعہ تقیہ اختیار نہ کرتے یہاں پر اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ تقیہ صرف شیعوں سے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے مسلمان بھی جب اپنے ایسے دشمنوں کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں جو مسلمانوں کے تمام فرقوں کے دشمن ہیں (جیسے کہ خوارج اور وہ ظالم حکومتیں جو ہر حرام کام کو جائز سمجھتی ہیں) اور ان سے مقابلہ کی طاقت بھی نہیں ہوتی تو وہ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر تقیہ کا سہارا لیتے ہیں اس بنیاد پر اگر اسلامی معاشرے کے تمام افراد اپنے فقہی مذاہب میں اتفاق رائے رکھتے ہوئے وحدت و اخوت کی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو پھر ہرگز انہیں تقیہ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

.....

(۱) اس سلسلے میں جلال الدین سیوطی کی تفسیر در المنثور جلد ۴ ص ۱۳۱ (طبع بیروت) کا مطالعہ کیجئے۔
(۲) بنی امیہ اور بنی عباس کے حکام کے حکم پر شیعوں کے بے رحمانہ قتل عام کے سلسلے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے ان کتابوں "مقاتل الطالبین" (مصنفہ ابوالفرج اصفہانی) "شہداء الفضیلة" (مصنفہ علامہ امینی)، "الشیعہ والحاکمون" (مصنفہ محمد جواد مغنیہ) کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔

نتیجہ

گزشتہ بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ:

۱. تقیہ کی اساس قرآن مجید پر ہے اور صدر اسلام میں پیغمبر اکرم کے اصحاب بھی تقیہ کرتے تھے اور آنحضرت ان کے اس عمل کی تائید فرماتے تھے یہ سب تقیہ کے جائز ہونے کی دلیلیں ہیں۔
۲. شیعہ اپنے مذہب کو بچانے اور دشمنوں کے سفاکانہ قتل عام سے محفوظ رہنے کے لئے تقیہ کرتے تھے۔
۳. تقیہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے مسلمان بھی تقیہ کرتے ہیں۔
۴. تقیہ کرنا اور اپنے باطنی عقائد چھپانا صرف کفار کے مقابلے میں ہی انجام نہیں پاتا بلکہ تقیہ کا معیار (مسلمانوں کی جان بچانا) عمومیت رکھتا ہے اور ہر ایسے ظالم دشمن کے سامنے کہ جس کے ساتھ مقابلے کی قدرت نہ ہو یا اس سے جہاد کرنے کے شرائط پورے نہ ہو رہے ہوں تقیہ ضروری ہوجاتا ہے۔
۵. اگر مسلمانوں میں مکمل وحدت اور ہم فکری پیدا ہوجائے تو ہرگز ان کے درمیان تقیہ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

شیعہ جواب دیتے ہیں

بتیسواں سوال

ایران کے بنیادی قانون میں کیوں جعفری مذہب (شیعہ اثنا عشری) کو حکومت کا مذہب قرار دیا گیا ہے؟

جواب: اس میں شک نہیں کہ جمہوری اسلامی ایران کے بنیادی قانون کی نظر میں تمام اسلامی مذاہب محترم و معزز شمار کئے جاتے ہیں لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اسلامی و فقہی مذاہب (جیسے جعفری، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی و...) کے ماننے والے اپنے فردی اور اجتماعی احکام میں یکساں اور متحد نہیں ہیں اور ان کے درمیان بہت سے اختلافات دکھائی دیتے ہیں دوسری طرف سے ایک معاشرے کے قوانین و حقوق کا آپس میں منظم اور یک رنگ ہونا وقت کی شدید ترین ضرورت ہے اس اعتبار سے واضح ہے کہ ہر سرزمین پر ان مذاہب میں سے صرف ایک مذہب ہی اجتماعی قوانین کو نافذ کر سکتا ہے اس لئے کہ قانون گزاروں کے مختلف ہونے سے کبھی بھی ایک جیسے اور یکساں قوانین نہیں بنائے جاسکتے اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ ہر معاشرے میں اسلامی اور فقہی مذاہب میں سے صرف ایک مذہب ہی باضابطہ طور پر اجتماعی قوانین کا ماخذ قرار پائے تاکہ اس مملکت کے قوانین و ضوابط میں کسی طرح کی دو روئی اور بدنظمی پیدا نہ ہونے پائے اور فردی و اجتماعی امور میں منظم اور یکساں قوانین و ضوابط بنانے کا زمینہ ہموار ہوسکے۔

جعفری مذہب کی تعیین کا معیار

گزشتہ وضاحت کے بعد اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کس معیار کے تحت تمام مذاہب میں سے صرف جعفری مذہب کو ملک کے قوانین و ضوابط کا ماخذ قرار دیا ہے؟

اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے چونکہ ایران میں عوام کی اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے جو جعفری مذہب کو مانتے ہیں لہذا اس ملک کے بنیادی قوانین میں جعفری مذہب کو ملک کا رسمی مذہب قرار دیا گیا جو کہ ایک فطری امر ہے اور تمام منطقی اور حقوقی ضابطوں سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔

ایران میں دوسرے اسلامی مذاہب کا درجہ

اگرچہ ایران کے بنیادی قوانین میں جعفری مذہب کو ملک کا رسمی مذہب قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس اسلامی مملکت میں دوسرے اسلامی مذاہب (جیسے شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، اور زیدی کو) نہ صرف محترم شمار کیا گیا ہے بلکہ ان مذاہب کے ماننے والوں کو درج ذیل امور میں اپنی فقہ پر عمل کرنے میں مکمل اختیار بھی دیا گیا ہے:

۱۔ اپنے مذہبی مراسم کے انجام دینے میں۔

۲۔ اپنی دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں۔

۳۔ اپنے ذاتی اور شخصی کاموں کو انجام دینے میں۔

۴۔ اپنے مذہب کے خصوصی قوانین و ضوابط میں (جیسے نکاح، طلاق، میراث، وصیت وغیرہ)۔

اس کے علاوہ اگر کسی علاقے میں مذکورہ مذاہب میں سے کسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہاں کے قونصل خانوں میں ان کے لئے ان کے مذہب کے مطابق قوانین و ضوابط وضع کئے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے حقوق بھی محفوظ رہیں گے۔

یہاں پر اس موضوع کی مزید وضاحت کے لئے ہم ایران کے بنیادی قانون کی بارہویں اصل کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں :

"ایران کا رسمی دین اسلام اور مذہب جعفری اثنا عشری ہے یہ ہمیشہ رہے گا اور ناقابل تبدیل ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مذہبوں جیسے شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، اور زیدی مذاہب کے ماننے والے بھی مکمل طور پر محترم شمار

کئے جائیں گے " اور ان مذاہب کے پیرو اپنی فقہ کے مطابق اپنے مذہبی رسومات کے انجام دینے میں آزاد ہوں گے اور اسی طرح وہ اپنی دینی تعلیم و تربیت اور اپنے ذاتی مسائل جیسے نکاح، طلاق، میراث، وصیت، لڑائی جھگڑوں کے مسائل اور عدالتوں میں مقدموں کے سلسلے میں رسمی طور پر اپنے مذہب کی فقہ پر عمل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور جس جگہ بھی مذکورہ مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کے پیرو اکثریت میں ہوں گے اس جگہ کے علاقائی قوانین ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے حقوق بھی محفوظ ہوں گے ایران کے قانون اساسی کی اس بارہوں اصل کی روشنی میں تمام اسلامی مذاہب کا احترام روشن ہوجاتا ہے ۔

تینتیسواں سوال

کیا شیعہ نماز وتر کو واجب سمجھتے ہیں؟

جواب: نوافل شب میں سے ایک نماز وتر بھی ہے جس کا پڑھنا اسلام کے ماننے والوں اور رسول خدا کی پیروی کرنے والوں کے لئے مستحب ہے لیکن شیعہ فقہاء نے کتاب و سنت کی روشنی میں چند امور کو پیغمبر اسلام کی خصوصیات میں سے قرار دیا ہے ان ہی میں سے ایک حضور پر اس نماز کا واجب ہونا بھی ہے . چنانچہ علامہ حلی نے اپنی کتاب "تذکرۃ الفقہاء" میں تقریباً ستر چیزوں کو پیغمبر اکرم ﷺ کی خصوصیات میں شمار کیا ہے اور انہوں نے اپنے کلام کے آغاز ہی میں یہ کہا ہے:

"فَأَمَّا الواجبات عليه دون غيره من أُمَّته أمور: الف. السواك، ب. الوتر، ج. الأضحیه، رو عنه أنه قال : ثلاث كتب علّ ولم تكتب عليكم : السواك والوتر والأضحية... " (۱)

.....

(۱) تذکرۃ الفقہاء جلد ۲ کتاب النکاح مقدمہ چہارم.

وہ چیزیں جو صرف پیغمبر اسلام پر واجب ہیں اور ان کی امت کے لئے واجب نہیں ہیں وہ یہ ہیں: الف: مسواک کرنا، ب: نماز وتر پڑھنا، ج: قربانی کرنا، رسول خدا سے نقل ہوا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے: تین چیزیں میرے اوپر واجب کی گئی ہیں لیکن تم لوگوں پر واجب نہیں ہیں اور وہ ہیں مسواک کرنا، نماز وتر پڑھنا اور قربانی کرنا "اس بنیاد پر نماز وتر شیعوں کی نظر میں صرف رسول خدا پر واجب ہے اور دوسروں کے لئے اس کا پڑھنا مستحب ہے.

چونتیسواں سوال

کیا اولیائے خدا کی غیبی طاقت پر عقیدہ رکھنا شرک ہے؟

جواب: یہ بات واضح ہے کہ جب کبھی کوئی شخص دوسرے سے کسی کام کی درخواست کرتا ہے تو وہ اس شخص کو اس کام کے انجام دینے میں اپنے سے قوی اور طاقتور سمجھتا ہے اور یہ طاقت دو قسم کی ہوتی ہے:

۱. کبھی یہ قدرت مادی اور فطری ہوتی ہے جیسے ہم کسی شخص سے کہیں مجھے ایک گلاس پانی لادو .

۲. بعض اوقات یہ طاقت مادی اور فطری نہیں ہوتی بلکہ غیبی صورت میں ہوتی ہے جیسے کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ خدا کے کچھ نیک بندے جناب عیسیٰ کی طرح لاعلاج مرض سے شفا عطا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور مسیحائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شدید قسم کے مریض کو بھی نجات عطا کرتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کی غیبی طاقتوں پر انہیں خدا کے ارادے اور قدرت کا محتاج سمجھ کر عقیدہ رکھنا فطری و مادی قدرتوں پر عقیدہ رکھنے کی طرح ہے اور یہ ہرگز شرک قرار نہیں پاسکتا اس لئے کہ خداوند عالم ہی نے یہ مادی اور فطری طاقتیں انسان کو عطا کی ہیں اور اسی نے

غیبی طاقتوں کو اپنے نیک بندوں کو عنایت فرمایا ہے .
یہاں پر ہم اس جواب کی مزید وضاحت کرنے کے لئے یہ کہیں گے کہ اولیائے خدا کی غیبی قدرت و طاقت پر دو طرح سے عقیدہ رکھا جاسکتا ہے :

۱ کسی شخص کی غیبی قدرت پر اس طرح عقیدہ رکھا جائے کہ اسے اپنی اس طاقت میں مستقل اور اصل سمجھیں اور خدائی امور کو مستقل طور پر اس کی طرف نسبت دینے لگیں اس صورت میں شک نہیں کہ یہ عقیدہ شرک شمار ہوگا کیونکہ اس طرح ہم نے غیر خدا کو طاقت میں مستقل سمجھ کر خدائی امور کو غیر خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے جب کہ یہ طے ہے کہ پروردگار عالم کی لامتناہی طاقت و قدرت ہی سے تمام طاقتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ بنا ہے .

۲ خدا کے نیک اور باایمان بندوں کی غیبی طاقت پر اس طرح اعتقاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی یہ قدرت پروردگار عالم کی لامحدود قدرت سے حاصل کی ہے اور درحقیقت ان قدرتوں کو حاصل کرنے کا سبب یہ ہے کہ ان کے ذریعے خدا کی لامحدود قدرت کا اظہار کیا جاسکے اور وہ خود اپنی ذات میں کسی طرح کا استقلال نہیں رکھتے بینبلکہ وہ اپنی ہستی اور اپنی غیبی قدرت کے استعمال میں پوری طرح ذات پروردگار پر منحصر ہیں.

واضح ہے کہ اس طرح کا عقیدہ اولیائے الہی کو خدا سمجھنے یا ان کی طرف خدائی امور کی نسبت دینے کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں پروردگار عالم کے نیک بندے اس کی اجازت اور ارادے سے اس کی عطا کردہ غیبی طاقت کا اظہار کرتے ہیں . قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے:

(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيََ لَأَبِذُنِ اللَّهِ) (۱)

اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے.

اس بیان کی روشنی میں واضح ہوجاتا ہے کہ ایسا عقیدہ باعث شرک قرار نہیں پائے گا بلکہ توحید و یکتا پرستی سے مکمل طور پر مطابقت رکھنے والا عقیدہ نظر آئے گا.

قرآن مجید کی نظر میں اولیائے الہی کی غیبی طاقت
مسلمانوں کی آسمانی کتاب نے وضاحت کے ساتھ پروردگار عالم کے ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے پروردگار عالم کی اجازت سے اپنی حیرت انگیز قدرت کا مظاہرہ کیا تھا اس سلسلے میں قرآن مجید کے بعض جملے ملاحظہ ہوں:

.....

(۱)سورہ رعد آیت : ۳۸

۱ حضرت موسیٰ کی غیبی طاقت
خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں تاکہ اس سے پانی کے چشمے جاری ہوجائیں:

(وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا) (۱)

اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا : اپنا عصا پتھر پر مارو جس کے نتیجے میں اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے.

حضرت عیسیٰ کی غیبی طاقت
قرآن مجید میں مختلف اور متعدد مقامات پر حضرت عیسیٰ کی غیبی قدرت کا تذکرہ ہوا ہے ہم ان میں سے بعض کو یہاں پیش کرتے ہیں:

(نَّخْلُوكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرَأُ الْكَلْبَ وَالْبُرْصَ وَخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ) (۲)

(حضرت عیسیٰ نے فرمایا) میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جائے گا اور میں پیدائشی اندھے اور برص کے مریض کا علاج کروں گا اور خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا.

.....
(۱)سورہ بقرہ آیت: ۶۰
(۲)سورہ آل عمران آیت : ۴۹

حضرت سلیمان کی غیبی طاقت
حضرت سلیمان کی غیبی طاقتوں کے سلسلے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے:
(وَوَرِّثْ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَوَعَيْنَا مَن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْفَضْلِ الْمُبِينُ) (۱)
اور سلیمان، داؤد کے وارث بنے اور انہوں نے کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی زبان کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عنایت کی گئی ہیں بے شک یہ تو ایک نمایاں فضل ہے۔
اس میں شک نہیں ہے کہ اس قسم کے کام جیسے حضرت موسیٰ کا سخت پتھر پر عصا مار کر پانی کے چشمے جاری کر دینا حضرت عیسیٰ کا گیلی مٹی سے پرندوں کا خلق کر دینا اور لاعلاج مریضوں کو شفا عطا کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا حضرت سلیمان کا پرندوں کی زبان سمجھنا یہ سب نظام فطرت کے خلاف شمار ہوتے ہیں اور درحقیقت انبیائے الہی نے اپنے ان کاموں کو اپنی غیبی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے انجام دیا ہے۔
جب قرآن مجید نے اپنی آیات میں بیان کیا ہے کہ خداوند عالم کے نیک بندے
غیبی طاقت رکھتے ہیں تو اب کیا ان آیات کے مضامین پر عقیدہ رکھنا شرک یا بدعت شمار کیا جاسکتا ہے؟ ان بیانات کی روشنی میں بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کی غیبی قدرتوں پر عقیدہ رکھنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انہیں خدا مانا جائے یا ان کی طرف خدائی امور کی نسبت دی جائے اس لئے کہ ان کے بارے میں اس قسم کے عقیدہ سے ان کی خدائی لازم آتی ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت سلیمان وغیرہ قرآن کی نظر میں خدا شمار ہونگے جب کہ سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ کتاب الہی کی نگاہ میں اولیائے الہی صرف خدا کے نیک بندوں کی حیثیت رکھتے ہیں یہاں تک کی گفتگو سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اولیائے الہی کی غیبی طاقت کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں یہ قدرت پروردگار کی لامحدود قدرت ہی سے حاصل ہوئی ہے اور درحقیقت ان کی اس قدرت کے ذریعے پروردگار عالم کی لامحدود قدرت کا اظہار ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمارے یہ عقائد باعث شرک قرار نہیں پائیں گے بلکہ عقیدہ توحید کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ نظر آئیں گے کیونکہ توحید اور یکتا پرستی کا معیار یہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام قدرتوں کو خدا کی طرف پلٹائیں اور اسی کی ذات کو تمام قدرتوں اور جنبشوں کا سرچشمہ قرار دیں۔

.....
(۱)سورہ نمل آیت: ۱۶

شیعہ جواب دیتے ہیں

بینتیسواں سوال

کیوں منصب امامت منصب رسالت سے افضل ہے؟

جواب: اس سوال کے جواب کے لئے سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تین لفظوں نبوت، رسالت اور امامت

کی وضاحت پیش کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ منصب امامت ان دو منصبوں سے افضل ہے۔

۱. منصب نبوت

لفظ نبی کو "نبأ" سے اخذ کیا گیا ہے جس سے مراد "اہم خبر" ہے اس اعتبار سے نبی کے لغوی معنی ہیں وہ شخص جس کے پاس کوئی اہم خبر ہو یا وہ اس خبر کو پہنچانے والا ہو۔ (۱)

قرآن کی اصطلاح میں بھی "نبی" ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو خداوند عالم سے مختلف طریقوں سے وحی حاصل کرتا ہو اور کسی بشر کے واسطے کے بغیر خدا کی طرف سے خبر دیتا ہو علماء نے نبی کی یہ تعریف کی ہے:

.....

(۱) اگر نبی صیغہ لازم ہو گا تو پہلے معنی میں ہوگا اور اگر متعدی ہوگا تو دوسرے معنی میں ہوگا۔

إِنَّهُ مُؤَدِّ مِنَ اللَّهِ بِلا واسطۃ من البشر (۱)

نبی ایسا شخص ہے جو کسی بشر کے واسطے کے بغیر خدا کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہے اس بنیاد پر "نبی" کا م صرف یہ ہے کہ پروردگار عالم سے وحی حاصل کرے اور اس پر جو الہام ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچادے اور بس۔ قرآن مجید اس سلسلے میں یہ فرماتا ہے:

(فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ) (۲)

پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے۔

۲. منصب رسالت

وحی الہی کی اصطلاح میں رسول ان پیغمبروں کو کہا جاتا ہے جو خدا سے وحی لینے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے علاوہ خدا کی طرف سے اس کی شریعت کو بیان کرنے اور اپنی رسالت کے اعلان کرنے کی اجازت بھی رکھتے ہوں قرآن مجید اس سلسلے میں یہ فرماتا ہے:

(فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا تَمَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) (۳)

.....

(۱) رسائل العشر (مصنفہ شیخ طوسی) ص ۱۱۱۔

(۲) سورہ بقرہ آیت: ۲۱۳۔

(۳) سورہ مائدہ آیت ۹۲۔

پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حکم پہنچادینا ہے۔ لہذا منصب رسالت ایک ایسا منصب ہے جو نبی کو عطا کیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں نبوت اور رسالت دونوں ہی الفاظ اس خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو پیغمبروں میں پائی جاتی ہے اگر پیغمبر صرف وحی الہی کو لے کر پہنچادے تو اسے نبی کہتے ہیں لیکن اگر وہ رسالت و شریعت بھی لوگوں تک پہنچانے تو اسے رسول کہا جاتا ہے۔

۳. منصب امامت

قرآن مجید کی نظر میں منصب امامت، نبوت اور رسالت کے علاوہ ایک تیسرا عہدہ ہے جس میں صاحب منصب کو لوگوں کی رہبری کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ تصرفات کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔

اب ہم قرآنی آیات کی روشنی میں اس موضوع کے بارے میں چند واضح دلائل پیش کرتے ہیں۔

۱. قرآن کریم حضرت ابراہیم خلیل کو منصب امامت عطا کرتے ہوئے فرماتا ہے:

(وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ) (۱)

.....

(۱) سورہ بقرہ آیت : ۱۲۴۔

اور (وہ وقت یاد کیجئے) جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا تو ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں انہوں نے کہا اور میری ذریت؟

قرآن مجید کی اس آیت سے دو حقیقتیں آشکار ہوجاتی ہیں :

الف: مذکورہ آیت بخوبی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ منصب امامت ، نبوت و رسالت کے علاوہ ایک تیسرا منصب ہے کیونکہ حضرت ابراہیم ان آزمائشوں (منجملہ قربانی اسماعیل سے پہلے ہی) مقام نبوت پر فائز تھے یہ بات درج ذیل دلیل سے ثابت ہوتی ہے:

ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خداوندعالم نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے تھے قرآن مجید حضرت ابراہیم کی زبان سے یوں حکایت کرتا ہے :

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَبَّ لَ عَلِيَّ الْكَبِيرِ سَمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ) (۱)

شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا کئے۔

اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی مذکورہ آزمائشوں میں سے ایک

.....

(۱)سورہ ابراہیم آیت :۳۹.

حضرت اسماعیل کی قربانی بھی تھی اور اس مشکل آزمائش کے مقابلے میں انہیں منصب امامت عطا کیا گیا تھا نیز انہیں یہ منصب ان کی عمر کے آخری حصے میں عطا کیا گیا تھا۔ جبکہ وہ کئی سال پہلے ہی سے منصب نبوت پر فائز تھے کیونکہ حضرت ابراہیم پر ان کی ذریت سے پہلے بھی وحی الہی (جو کہ نبوت کی نشانی ہے) نازل ہوا کرتی تھی (۱)

ب:اسی طرح اس آیت (وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ...) سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امامت اور رہبری کا منصب نبوت و رسالت سے بالاتر ہے کیونکہ قرآن مجید کی گواہی کے مطابق خداوندکریم نے جناب ابراہیم کو نبوت و رسالت کے عہدہ پر فائز ہونے کے باوجود جب انہیں امامت عطا کرنی چاہی تو انتہائی سخت قسم کے امتحان سے آزمایا تھا اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے تب اس کے بعد یہ منصب انہیں دیا تھا اس بات کی دلیل واضح ہے اس لئے کہ امامت کے فرائض میں وحی الہی کے حاصل کرنے اور رسالت و شریعت کے پہنچانے والے کے علاوہ امت کی رہبری اور ان کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں کمال و سعادت کی راہ پر گامزن کرنا بھی شامل ہے اب یہ بات فطری ہے کہ وہ منصب ایک خاص قسم کی عزت و عظمت کا حامل ہوگا جس کا حصول انتہائی سخت آزمائشوں کے بغیر ممکن ہی نہ ہو۔

۲.گذشتہ آیت سے بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ خداوندعالم نے سخت آزمائشوں

.....

(۱)اس سلسلے میں سورہ صافات کی آیت نمبر ۹۹ سے لے کر ۱۰۲ تک اور سورہ حجر کی آیت نمبر ۵۳ اور ۵۴ اور سورہ ہود کی آیت ۷۰ اور ۷۱ کا مطالعہ فرمائیں۔

کے بعد جناب ابراہیم کو امامت اور معاشرہ کی قیادت عطا فرمائی تھی اور اس وقت جناب ابراہیم نے خدا سے درخواست کی تھی خدایا! اس منصب کو میری ذریت میں بھی قرار دینا اب قرآن مجید کی چند دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی یہ درخواست قبول کرلی تھی اور نبوت و امامت کے بعد امت کی رہبری اور حکومت کو جناب ابراہیم کی نیک اور صالح ذریت میں بھی قرار دے دیا تھا۔ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے:

(فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا) (۱)

تو پھر ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور انکو عظیم سلطنت عنایت کی۔

اس آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ "امامت" نبوت ، سے الگ ایک منصب ہے جسے خداوندعالم نے اپنے عظیم القدر نبی جناب ابراہیم کو سخت آزمائشوں کے بعد عطا فرمایا تھا اور انہوں نے اس وقت خداوندعالم سے درخواست کی تھی کہ امامت کو میری ذریت میں بھی قرار دے تو خدائے حکیم نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی تھی اور انہیں آسمانی کتاب اور حکمت (جو کہ نبوت و رسالت سے مخصوص ہے) کے علاوہ "ملک عظیم" (یعنی لوگوں پر حکومت) بھی عطا کی تھی

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوندکریم نے جناب ابراہیم کی ذریت کے بعض افراد (جیسے حضرت یوسف حضرت داؤد اور

حضرت سلیمان) کو منصب نبوت کے علاوہ حکومت کرنے اور لوگوں کی رہبری کے لئے بھی منتخب فرمایا تھا ان بیانات کی روشنی میں معلوم ہوجاتا ہے کہ امامت کا عہدہ نبوت و رسالت کے علاوہ ایک تیسرا منصب ہے جو کہ مزید قدرت اور ذمہ داریوں کی وجہ سے دوسرے عہدوں کی بہ نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہے .

.....

(۱)سورہ نساء آیت ۵۴ .

منصب امامت کی برتری

گذشتہ بیانات سے واضح ہوجاتا ہے کہ نبی اور رسول کا کام صرف لوگوں تک پیغام پہنچانا اور انہیں راہ دکھانا ہے اور اگر کوئی نبی منصب امامت پر فائز ہوجاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور نتیجے میں معاشرے کو سنوارنے اور سعادت مند بنانے کے لئے شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے کی ذمہ داری بھی اس کے دوش پر آجاتی ہے اس طرح وہ امت کو ایسے راستے پر گامزن کردیتا ہے جس سے وہ دونوں جہان میں خوشبخت بن جاتی ہے .

واضح ہے کہ اس قسم کی اہم ذمہ داری ایک عظیم معنوی قدرت اور خاص لیاقت کی نیاز مند ہے اور اس سنگین عہدے کے لئے راہ خدا میں صبر اور ثبات قدم کی ضرورت ہے کیونکہ اس راہ میں ہمیشہ سخت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے خواہشات نفسانی سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ عشق خدا اور رضائے پروردگار کے بغیر اس عظیم منصب کا حصول ممکن نہیں ہے ان ہی سب وجہوں سے خداوندعظیم نے جناب ابراہیم کو ان کی عمر کے آخری حصے میں انتہائی سخت آزمائشوں کے بعد یہ منصب عطا کیا تھا اور پھر اپنے بہترین بندوں جیسے حضرت پیغمبر ختمی مرتبت کو یہ منصب امامت و رہبری عنایت فرمایا تھا.

کیا نبوت اور امامت ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہیں؟

اس سوال سے ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ : کیا ہر نبی کے لئے امام ہونا اور ہر امام کے لئے نبی ہونا ضروری ہے؟

ان دو سوالوں کا جواب منفی ہے ہم اس جواب کو واضح کرنے کیلئے وحی الہی کا سہارا لیں گے وہ آیتیں جو طالوت اور ظالم جالوت کی جنگ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کے بعد منصب نبوت کو بطاثر "اشموئیل" نامی شخص کو عطا فرمایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ منصب امامت و حکومت کو جناب طالوت کے سپرد کیا تھا اس قصے کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے :

حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لئے ایک حکمران معین کیجئے تاکہ اس کی سربراہی میں ہم راہ خدا میں جنگ کریں تو اس وقت ان کے پیغمبر نے ان سے یوں کہا: (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (۱)

اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا : اللہ نے طالوت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر کیا ہے . ان لوگوں نے کہا: اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا ہے؟ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حق دار ہیں . وہ تو کوئی دولت مند آدمی نہیں ہے . نبی نے جواب دیاکہ اللہ نے اسے تمہارے لئے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے اور اللہ بڑا وسعت والا، دانا ہے.

اس آیت سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں :

۱۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ مصلحتیں اس بات کا تقاضا کریں کہ منصب نبوت کو منصب امامت سے جدا کر دیا جائے اور ایک ہی زمانے میں دو الگ الگ افراد نبی و امام ہوں اور ان میں سے ہر ایک اپنے خاص منصب ہی کی لیاقت و صلاحیت رکھتا ہو .

اسی لئے بنی اسرائیل نے اپنے زمانے میں ان دو منصبوں کے جدا ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ اے پیغمبر آپ طالوت سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں بلکہ

(۱) سورہ بقرہ آیت ۲۴۷ .

انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم اس سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں۔
۲ جناب طالوت کو حکومت خداوند کریم ہی نے عطا کی تھی قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے :
(۱) إِنَّ اللَّهَ فَدَّ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا) اللہ نے طالوت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر کیا ہے اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے (نَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ) بے شک اللہ نے اسے تمہارے لئے منتخب کیا ہے۔
۳ جناب طالوت کا یہ الہی منصب صرف فوج کی سربراہی تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ بنی اسرائیل کے حاکم و فرمانروا بھی تھے کیونکہ قرآن نے انہیں "مَلِكًا" کہہ کر یاد کیا ہے اگرچہ اس دن اس رہبری کا مقصد یہ تھا کہ جہاد کرنے کے لئے بنی اسرائیل کی سربراہی کریں لیکن ان کا یہ الہی منصب انہیں دوسری حکومتی ذمہ داریوں کو بھی انجام دینے کی اجازت دیتا تھا .

اس لئے قرآن مجید اس آیت کے اختتام میں فرماتا ہے :

(وَاللَّهُ يُوتِ مَلِكُهُ مَنْ يَشَاءُ) اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک دیدے .

۴. امت کی رہبری اور امامت کے لئے اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس میں علمی، جسمانی، اور معنوی توانائی پائی جاتی ہو اس قسم کی صلاحیت اس زمانے میں زیادہ اہمیت رکھتی تھی کیونکہ ان ایام میں حاکم خود میدان میں حاضر ہو کر جنگ کرتا تھا (۱)

(۱) منشور جاوید (مصنفہ استاد جعفر سبحانی) سے ماخوذ۔

گذشتہ بیانات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبوت اور امامت ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم نہیں ہیں بلکہ ممکن ہے کہ ایک شخص نبی ہو لیکن منصب امامت پر فائز نہ ہو یا یہ کہ کوئی شخص خدا کی جانب سے امام ہو لیکن اسے عہدہ نبوت حاصل نہ ہوا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ پروردگار عالم یہ دونوں منصب ایک ہی شخص کو عطا کر دے جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے :

(فَبَزَمُوهُم بِذُنِ اللَّهِ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ) (۱)

چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھادیا۔

(۱) سورہ بقرہ آیت ۲۵۱ .

شیعہ جواب دیتے ہیں

چھتیسواں سوال

توحید اور شرک کی شناخت کا معیار کیا ہے؟

"توحید" اور شرک کی بحثوں میں سب سے اہم مسئلہ ان دونوں کی شناخت کے معیار کا ہے اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں

ہوگا بعض دوسرے اہم مسائل بھی حل نہیں ہو پائیں گے اس لئے ہم مسئلہ توحید و شرک پر مختلف زاویوں سے مختصراً بحث پیش کر رہے ہیں :

۱. توحید ذاتی

توحید ذاتی دو صورتوں میں پیش کی جاتی ہے :

الف: خدا ایک ہے اور کوئی اس جیسا نہیں (اس مفہوم کو علم کلام کے علماء واجب الوجود کے نام سے یاد کرتے ہیں) اور یہ وہی توحید ہے کہ جسے خداوند عالم نے مختلف صورتوں میں قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے ملاحظہ ہو: (لیس کمثلہ شیء)

اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ (۱)

ایک اور جگہ پر فرماتا ہے:

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (۲)

اور کوئی بھی اس کا کفو اور ہمسر نہیں ہے۔

البتہ بعض اوقات توحید کی اس قسم کی تفسیر عامیانہ طور پر کردی جاتی ہے کہ جس میں توحید عددی کا رنگ دکھائی دینے لگتا ہے وہ اس طرح کہ: کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے اور دو نہیں اس قسم کا جملہ سن کر کچھ کہے بغیر واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کی طرف اس قسم کی توحید (عددی) کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے۔

ب: خدا کی ذات بسیط ہے نہ کہ مرکب کیونکہ ہر مرکب موجود (چاہے اس کا وجود ذہنی اجزاء سے مرکب ہو یا خارجی اجزاء سے مرکب ہو) اپنے وجود میں اجزاء کا محتاج ہوتا ہے اور محتاج ہونا ممکن ہونے کی علامت ہے اور ہر ممکن علت کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ واجب الوجود کے ساتھ کسی بھی صورت میں مطابقت نہیں رکھتا۔

.....

(۱) سورہ شوریٰ آیت: ۱۱

(۲) سورہ اخلاص آیت: ۴

۲. خالقیت مین توحید

توحید کے وہ مراتب جنہیں عقل و نقل دونوں نے قبول کیا ہے ان میں سے ایک توحید خالقیت بھی ہے عقل کی روسے خداوند عالم کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب عالم

امکان کے زمرے میں آتا ہے اور ہر قسم کے جمال و کمال سے عاری ہوتا ہے اور جو کچھ عالم امکان میں پایا جاتا ہے وہ غنی بالذات (خدا) کی ہے کراں رحمت سے فیض یاب ہوتا ہے اس اعتبار سے اس دنیا میں دکھائی دینے والے جمال و کمال کے جلوے اسی کے مربوب منت ہوتے ہیں قرآن مجید نے بھی توحید خالقیت کے سلسلے میں بہت سی آیات پیش کی ہیں ہم ان میں سے صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

(قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (۱)

کہہ دیجئے: ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا، بڑا غالب ہے۔

لہذا خدا پرستوں میں مجموعی طور پر توحید خالقیت کے سلسلے میں اختلاف نہیں پایا جاتا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ توحید خالقیت کے بارے میں دو قسم کی تفسیریں پائی جاتی ہیں ان دونوں کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں:

الف: موجودات عالم میں پائے جانے والے ہر قسم کی علت اور معلول والے نظام اور نیز ان کے درمیان پائے جانے والے سبب اور مسبب کے رابطے سب ہی علت العلل (جس کی کوئی علت نہ ہو) اور مسبب الاسباب (جس کا کوئی سبب نہ ہو) تک پہنچتے ہیں اور درحقیقت اصلی اور مستقل خالق خداوند عالم ہی کی ذات ہے اور خدا کے علاوہ باقی سب علل و اسباب، خداوند عالم کی اجازت و مشیت کے تابع ہیں۔

اس نظریہ مین دنیا میں علت و معلول کے نظام کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اور علم بشر

.....

(۱) سورہ رعد آیت: ۱۶ .

نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے لیکن اس کے باوجود کل نظام کا تعلق ایک لحاظ سے خدا ہی سے ہے اور اسی نے اسباب کو سببیت ، علت کو علیت اور موثر کو تاثیر عطا کی ہے .
ب: اس دنیا میں صرف ایک ہی خالق کا وجود ہے اور وہ خداوند عالم کی ذات ہے اور نظام ہستی میں اشیاء کے درمیان ایک دوسرے کیلئے کسی قسم کی اثر گزاری اور اثر پذیری نہیں پائی جاتی بلکہ تمام مادی موجودات کا خالق بلا واسطہ خدا ہی ہے . اسی طرح انسان کی طاقت بھی اس کے اعمال پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے . لہذا نظام ہستی میں صرف ایک ہی علت پائی جاتی ہے اور وہی ان فطری علتوں کی رئیس و اصل ہے .
البتہ توحید خالقیت کی یہ تفسیر اشاعرہ نے پیش کی ہے لیکن ان میں سے بعض افراد جیسے امام الحرمین (۱) اور شیخ محمد عبدہ نے رسالہ توحید میں اس تفسیر کو چھوڑ کر پہلی تفسیر کو مانا ہے .

۳ تدبیر مینتوحد

چونکہ عالم کو خلق کرنا خدا ہی سے مخصوص ہے لہذا نظام ہستی کی تدبیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس دنیا میں صرف ایک ہی مدبر کا وجود ہے اور وہ عقلی دلیل کہ جو توحید خالقیت کو ثابت کرتی ہے وہی دلیل تدبیر میں بھی توحید کو ثابت کرتی ہے .
قرآن مجید کی متعدد آیات نے خداوند عالم کے مدبر ہونے کو بیان کیا ہے اس سلسلے میں یہ آیت ملاحظہ ہو:

.....

(۱) ملل و نحل (شہرستانی) جلد ۱ .

(عَبَّرَ اللَّهُ رَبًّا وَوُجُوهَ رَبِّ كَلِّ شَيْءٍ) (۱)

کہہ دیجئے : کہ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جب کہ وہ ہر چیز کا رب ہے .
البتہ وہ دونوں تفسیریں جو توحید خالقیت میں پائی جاتی ہیں وہی توحید تدبیری میں بھی پائی جاتی ہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق توحید تدبیری سے مراد یہ ہے کہ مستقل طور پر تدبیر کرنا صرف خدا سے مخصوص ہے
اس بنیاد پر نظام ہستی کے موجودات کے درمیان بعض تدبیریں خدا کے ارادے اور مشیت سے وجود میں آتی ہیں قرآن مجید نے بھی حق سے متمسک مدبروں کے بارے میں یوں فرمایا ہے :

(فالمديرات امرًا) (۲)

پھر امر کی تدبیر کرنے والے ہیں.

۴ حاکمیت میں توحید

حاکمیت میں توحید سے مراد یہ ہے کہ حکومت کا حق فقط خداوند عالم کو ہے اور صرف وہی انسانوں پر حاکم ہے جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے :

.....

(۱) سورہ انعام آیت: ۱۶۴ .

(۲) سورہ نازعات آیت : ۵ .

(إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ) (۱)

حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے.

اس اعتبار سے خدا کے علاوہ کسی اور کی حکومت صرف خدا کے ارادے اور مشیت سے ہونی چاہیے تاکہ نیک اور صالح افراد ہی معاشرے کے امور کی باگ ڈور سنبھالیں اور لوگوں کو کمال و سعادت کی راہ پر گامزن کرسکیں جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے :

(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) (۲)

اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا جانشین بنایا ہے لہذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں.

.....

(۱)سورہ یوسف آیت : ۴۰ .

(۲)سورہ ص آیت ۲۶ .

شیعہ جواب دیتے ہیں

۵۔ اطاعت میں توحید

اطاعت میں توحید سے مراد یہ ہے کہ حقیقی اور ذاتی طور پر خدائے بزرگ کی پیروی ضروری ہے لہذا بعض دوسرے افراد (جیسے پیغمبر، امام، فقیہ، باپ اور ماں) کی اطاعت کا لازم ہونا پروردگار عالم کے حکم اور ارادے سے ہے۔

۶ شریعت قرار دینے اور قانون گزاری میں توحید

قانون گزاری میں توحید سے مراد یہ ہے کہ شریعت قرار دینے اور قانون گزاری کا حق فقط خداوند عالم کو ہے اسی بنیاد پر قرآن مجید ہر اس حکم کو جو حکم الہی کے دائرے سے خارج ہو اسے کفر، فسق اور ظلم کا سبب قرار دیتا ہے ملاحظہ ہو:

(وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ فَتُؤَلِّكُ بِهِ الْكَافِرُونَ) (۱)

اور جو لوگ بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

(وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ فَتُؤَلِّكُ بِهِ الْفَاسِقُونَ) (۲)

اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔

(وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ فَتُؤَلِّكُ بِهِ الظَّالِمُونَ) (۳)

اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

.....

(۱)سورہ مائدہ آیت : ۴۴ .

(۲)سورہ مائدہ آیت : ۴۷ .

(۳)سورہ مائدہ آیت : ۴۵ .

۷۔ عبادت میں توحید

عبادت میں توحید کے سلسلے میں اہم ترین بحث "عبادت" کے معنی کی شناخت ہے کیونکہ سب مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ عبادت صرف خدا سے مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کی جائے جیسا کہ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے :

(يَاكُ نَعْبُدُ وَيَاكُ نَسْتَعِينُ) (۱)

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

قرآن مجید کی مختلف آیات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوتوں کا بنیادی عنصر یہی عقیدہ تھا قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے :

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ رِسُولٍ أَنْ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (۲)

اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔

لہذا اس مسلم الثبوت اصل میں کوئی شک نہیں کہ عبادت کا حق صرف خدا کا ہے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت

نہیں کی جاسکتی نیز یہ کہ اس اصل پر ایمان نہ رکھنے والا
موحد نہیں ہو سکتا۔

.....

(۱) سورہ حمد آیت: ۴۔

(۲) سورہ نحل آیت: ۳۶۔

لیکن ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ "عبادت" اور غیر عبادت کی شناخت کا معیار کیا ہے؟
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے استاد اور ماں باپ یا علماء اور مجتہدین کے ہاتھوں کا بوسہ لے یا اپنے نوری
الحقوق کا احترام کرے تو کیا اس کا یہ عمل ان کی عبادت شمار ہوگا؟ یا ایسا نہیں ہے بلکہ کسی کے مقابلے میں خضوع و
خسوع کو عبادت نہیں کہتے بلکہ عبادت کے لئے ایک خاص صفت کا ہونا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر چاہے جس بھی
طرح کا خضوع ہو عبادت نہیں کہلانے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کونسی بنیادی صفت ہے جو کسی بھی طرح کے خضوع
کو عبادت بنا سکتی ہے؟

لفظ عبادت کے غلط معنی

کچھ مصنفین نے اپنی کتابوں میں عبادت کے معنی خضوع اور یا زیادہ خضوع بیان کئے ہیں لیکن ان مصنفین کو قرآن مجید
کی بعض آیات کے ترجمہ میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ ان آیتوں میں خداوند کریم نے صراحت سے یہ بیان کیا ہے کہ اس
نے فرشتوں کو جناب آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا ملاحظہ ہو:

(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) (۱)

.....

(۱) سورہ بقرہ آیت: ۳۴۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا: آدم کو سجدہ کرو۔
حضرت آدم کے لئے بعینہ اسی طرح سجدہ بجالایا گیا جس طرح خداوند کریم کے لئے سجدہ کیا جاتا تھا جبکہ جناب آدم کے
سامنے یہ سجدہ خضوع اور تواضع کے اظہار کی خاطر انجام پایا تھا اور خدا کا سجدہ عبادت و پرستش کے طور پر بجالایا
جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک ہی طرح کے سجدوں میں کیسے دو مختلف حقیقتیں پیدا ہو گئیں؟
قرآن مجید ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ جناب یوسف کے سامنے سجدہ کیا تھا:
(وَرَفَعَ بَوَيْهٍ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رَبًّا حَقًّا) (۱)
اور یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب انکے سامنے سجدے میں گر پڑے اور یوسف نے کہا: اے باباجان!
یہی میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔
یہاں پر اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ جناب یوسف نے پہلے خواب کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے مراد وہی خواب
تھا جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ چاند اور

.....

(۱) سورہ یوسف آیت: ۱۰۰۔

سورج کے ہمراہ گیارہ ستارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں اس بات کو قرآن مجید نے یوں نقل کیا ہے:
(إِنَّ رَبِّيُ حَذَّ عَسْرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَايَهُمْ لِسَاجِدِينَ) (۱)
میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور آفتاب و مہتاب کو دیکھا ہے کہ یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔
اس آیت میں گیارہ ستاروں سے جناب یوسف کے گیارہ بھائی اور چاند اور سورج سے ان کے ماں اور باپ مراد ہیں۔
اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ نہ صرف حضرت یعقوب کے بیٹوں نے بلکہ خود جناب یعقوب نے بھی جناب یوسف کے
سامنے سجدہ کیا تھا۔
اب یہاں ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں:

اس قسم کے سجدہ کو عبادت میں شمار کیوں نہیں کیا جاتا جبکہ سجدہ نہایت خضوع اور تواضع کے ساتھ بجالایا گیا تھا؟

عذر بدتر از گناہ

یہاں پر چونکہ مذکورہ مصنفین اس سوال کا جواب نہیں دے پائے لہذا یوں کہتے ہیں :

.....

(۱)سورہ یوسف آیت : ۴.

چونکہ اس قسم کا خضوع و خشوع پروردگار عالم کے حکم سے انجام دیا گیا تھا لہذا اسے شرک شمار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن یہ بات معلوم ہے کہ ان کی یہ تاویل کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اگر کوئی عمل باعث شرک ہو تو خداوندعالم ہرگز اس کا حکم نہیں دے سکتا۔

قرآن مجید فرماتا ہے:

(قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُدْرِكُ أَلْفَ مِائَةٍ بِأَلْفِ حَشَايَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (۱)

کہہ دیجئے اللہ یقیناً ہر ائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اصولی طور پر خداوندعالم کا حکم کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلتا اگر ایک انسان کے مقابلے میں خضوع کرنا اس کی عبادت ہو اور خدائے بزرگ نیز اس کا حکم دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے۔

مسئلے کا جواب اور عبادت کے حقیقی معنی کی وضاحت

یہاں تک یہ واضح ہو گیا کہ "غیر خدا کی عبادت کے ممنوع ہونے کے سلسلے میں" دنیا کے تمام موحد متفق ہیں اور دوسری طرف سے یہ بھی روشن ہو چکا ہے کہ فرشتوں کا

.....

(۱)سورہ اعراف آیت: ۲۸.

حضرت آدم کے سامنے اور حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کا حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کرنا ان کی عبادت نہ تھا اب ضروری ہے کہ ہم اس نکتے کی طرف توجہ دلائیں کہ وہ کون سی خاص صفت ہے جس کے نہ ہونے سے ایک عمل عبادت نہیں بن پاتا جبکہ اگر وہ پائی جاتی ہو تو وہی عمل عبادت شمار ہوتا ہے۔

قرآنی آیات کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ کسی موجود کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے خضوع کرنا یا اس کی طرف خدائی امور کی نسبت دینا اس کی عبادت کہلاتا ہے اس بیان سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو خدائی امور انجام دینے پر قادر سمجھتے ہوئے اس کے سامنے خضوع کیا جائے تو یہ عمل اسی کی عبادت شمار ہوگا۔ دنیا کے مشرک ایسے موجودات کے سامنے خضوع کیا کرتے تھے کہ جنہیں وہ مخلوق خدا تو سمجھتے تھے لیکن وہ اس بات کے معتقد تھے کہ کچھ خدائی امور جیسے کہ گناہوں کی بخشش، اور حق شفاعت انہیں موجودات کو سونپ دیئے گئے ہیں۔

سرزمین بابل کے کچھ مشرک آسمانی ستاروں کو اپنا رب اور دنیا اور انسانوں کی تدبیر کا مالک سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے لیکن انہیں اپنا خالق نہیں سمجھتے تھے حضرت ابراہیم نے بھی اسی اصل کی بنا پر اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کیا تھا کیونکہ سرزمین بابل کے مشرک ہرگز سورج چاند اور ستاروں کو اپنا خالق نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ انہیں ایسی باقدرت مخلوق سمجھتے تھے جنہیں ربوبیت اور دنیا کی تدبیر سونپ دی گئی تھی قرآنی آیات میں بھی حضرت ابراہیم اور مشرکین بابل کے درمیان مناظرے میں لفظ رب کو محور قرار دیتے ہوئے (۱) بیان کیا گیا ہے اور یہ واضح ہے کہ لفظ رب کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اپنا صاحب اور اپنی مملوک کے امور کا مدبر قرار دیا جائے۔ عربی زبان میں گھر کے مالک کو "رب البیت" اور کھیتی باڑی کے مالک کو رب الضیعة کہتے ہیں اس لئے کہ گھر اور کھیتی باڑی کی تدبیر ان کے مالکوں کے ذمے ہوتی ہے۔

قرآن مجید مشرکین کے مقابلے میں صرف خداوندعالم کو اس نظام ہستی کا رب اور مدبر قرار دیتا ہے اور سب کو خدائے یگانہ کی پرستش کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ بِدَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ﴾ (۲)

اللہ میرا رب اور تمہارا بھی رب ہے لہذا اس کی عبادت کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔
ایک اور جگہ فرماتا ہے:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾ (۳)

وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا اس کی عبادت کرو۔

.....

(۱) سورہ انعام آیت ۷۶ تا ۷۸۔

(۲) سورہ آل عمران آیت ۵۱۔

(۳) سورہ انعام آیت: ۱۰۲۔

اس طرح قرآن مجید سورہ دخان میں فرماتا ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (۱)

اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی اور موت دیتا ہے وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء اجداد کا بھی رب ہے۔

اسی طرح قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کے قول کو یوں نقل کیا ہے:

﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ (۲)

اور مسیح نے کہا: اے بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔

گذشتہ بیانات کی روشنی میں واضح ہوجاتا ہے کہ ہر وہ خضوع جو کسی مخلوق کے سامنے اسے رب اور خدا سمجھے

بغیر یا اس کی طرف خدائی امور کی نسبت دئیے بغیر انجام دیا جائے وہ ہرگز عبادت شمار نہیں کیا جاسکتا اگرچہ یہ

خضوع حد سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوجائے اس اعتبار سے امت کا پیغمبر اکرمؐ یا اپنے والدین کے سامنے انہیں خدا قرار نہ

دیتے ہوئے خضوع و خشوع کرنا ہرگز ان کی عبادت شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی بنیاد پر بہت

سے موضوعات جیسے اولیائے الہی سے منسوب چیزوں کو متبرک سمجھنا، حرم کے دروازوں، دیواروں اور ضربوں کو

چومنا، خدا کی بارگاہ میں اولیائے الہی سے متوسل ہونا، اولیائے الہی کو پکارنا، ان کے ایام ولادت میں جشن منانا اور

محفلیں برپا کرنا اور ان کے ایام وفات و شہادت میں مجلسیں منعقد کرنا ہرگز اولیائے الہی کی عبادت شمار نہیں کیا جاسکتا

اگرچہ بعض ناآگاہ افراد ان کاموں کو غیر خدا کی عبادت اور شرک سمجھتے ہیں جبکہ ان سارے کاموں کو کسی بھی طرح

سے غیر خدا کی عبادت اور شرک شمار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

.....

(۱) سورہ دخان آیت ۸

(۲) سورہ مائدہ آیت: ۷۲۔